अंशर्थ विकि

EMONAL





God has not called us to see through each other, but to see each other through.

BOTSWANA • SOUTH AFRICA • DUBAI • TANZANIA



- PROPERTY DEVELOPMENT COMMERCIAL, INDUSTRIAL, RESIDENTIAL
- RETAIL SUPERMARKETS
- GENERAL WHOLESALERS
- MANUFACTURERS' DISTRIBUTORS AGENTS
- MOTOR VEHICLE PARTS AND TYRES

GH Group P.O.Box 41029 Gaborone, Botswana

Tel: (+267) 3928053 Fax: (+267) 3928085 Email: gulaam@ghgroup.co.bw



2010 October, Volume No. 52 Issue No. 625 Registration No. SS-038

Memon Alam Committee:

Chairman & Chief Editor Pir Mohammad A. Kaliya (Pakistan)

Members:
Abdur Razzak Thaplawala
Haji Abdul Razak, WMO Europe Chapter
Umer Abdul Rehman
Altaf Ahmed Vayani
Iqbal Ganatra
Rizwan Shaktoor
Hina Yahya
Sumera Muhammad
M. Saleem Adam Vayani
Bilal Umer

World Memon Organisation

President: Haji Abdul Razzak Yaqoob - ARY (UAE)

Senior Deputy President: Abdul Sattar Dada (Botswana)

Deputy President: Sir Iqbal Sacranie (UK)

Secretary General: Pir Mohammad A. Kaliya (Pakistan)

Deputy Secretary General : Nowshad Abdul Ghani (UK)

Treasurer: Muhammad Younuf Adil (Pakistan)

Deputy Treasurer: Faizul Ayoob (South Africa)

Vice President (Pakistan Chapter) Shoaib Ismail Mangroria

Asstt. Sec. General: H.M. Shahzad

Vice President (India Chapter) Latif Adam Hakam

Asett, Sec. General: Abdul Hamid Nathani

Vice President (Middle Bast Chapter)

Assit. Sec. General (Acting): Ahmed Abubaker Shaikhani

Vice President (Europe Chapter) Abba Ali Yousuf

Asett. Sec. General: Dr. Esmail Harumani

Vice President (Africa Chapter) Gulasm Abdools

Asstt. Sec. General: Solly Suleman

Vice President (America & Canada Chapter) Shoaib Kothawala

Vice President (Par East Chapter) M. H. Umer (Srilanka)

Asstt, Sec. General: A. C. Saleem (Srilanka)

WMO Charitable Foundation: Chairman Solly Noor (South Africa)

Deputy Chairman: Haroon Karim (UK)

General Secretary: Bashir Sattar (UK)


Deputy Gen. Secretary: Haji Ismail Gadit (UAE)

Treasurer: M. Yasin Saya (Pakistan)

Deputy Treasurer: Iqbel Tabeni (UAE)

CONTENTS ENGLISH SECTION





- 4 Join Hands with WMO
- 6 From the desk of the Editor
- 7 NOTICE WMO Elections
- 19 A Pledge
- 21 Special Edition
- 24 Birds Eye View
- 25 In Perseverance
- 26 Think about it difficult relatives
- 27 Cut-piece
- 29 Habits
- 30 Lighter Moments
- 31 Get the Clue
- 32 Book Launching Ceremony
- 33 Health Corner
- 38 News & Views

GUJRATI SECTION

- 41 Editorial
- 43 Mr. Yakub Hasan a biography
- 46 Memon Quam 75 Varsh Pahela
- 48 My Diary
- 49 Memon Kahevato
- 50 Palla Machi
- 51 Relief Camp ni Kamgiri
- 52 Memon Samachar

URDU SECTION

نو کے	54
مهجتى كلياب	55
عالم كاوسترخوان	56
المالم المالم	59
بي ميدودت بروس اك	61
الجير فالتيت كالحسين مرقع	62
ويمكى بخارءايك جان ليوامرض	64
متك مرمر ساز اشده باته	66
مرويول شي شدت	70
نا كماني وقدرتي آفات ين	72
ميمن براوري كى خدمت انسانى	
عيدالانتي اورظ فرياني	75
قرآن جيدكاولمورة يلين	76
الم يتركم	77
قر مان مقداداعري	78

Published by: Chief Editor: Printed by: Designed by:

Umer A. Rehman for WMO Pir Muhammad Kaliya Bilal Umer - ADK Printers Faizan Dawood Saati

B-1 Shama Plaza G.K. 8-18/1, Near Nakhuda Masjid G. Allana Road, Kharadar, Karachi-Pakistan.

For further details please contact:

World Memon Organisation 32/8, Street No. 6, Muslim Abad, Off: Kashmir Road Karachi email: memonalam@wmopc.com

For online version, please logon to: www.wmopakistan.com, www.wmopc.com

M JOIN HANDS WITH WMO



MISSION OF WMO

The Mission of WMO is to act as the central Memon organisation representing the Memon Community throughout the world and to promote the advancement, upliftment, unity, welfare and well-being of Memons in the world, in all aspects of life and at all times in accordance with and under the guidance of Islamic priniciples.

MEMBERSHIP

The World Memon Organisation has the following categories of Membership:

- Apex Bodies (National Bodies)
- Institutional Members (Regional and Local Bodies) local institutions, foundations, trusts, 2. social welfare organizations, professional institutions, chamber of commerce, educational
- 3. Corporate Members (Commercial Bodies) -
- 4. 5. Individual Members (Annual or Life Members)
- Associate Members (any Non-Memon Organizations or Non-Memon Individual)
- Patrons
- 6. 7. Trustees of WMO Charitable Foundation (WMOCF)

MEMBERSHIP FEES

US \$500 (Annually) Apex Members US \$250 (Annually) Institutional Members US \$500 (Annually) Corporate Members Annual Membership US \$100 Life Membership US \$2,500 Patron ' US \$25,000 US \$100,000 Trustee

NOTES:

- Subscription for female applicants shall be half the normal fees 1.
- Subscription for Life Members can be paid in three equal annual installments 2.
- 3. Subscription for Patrons can be paid in five equal annual installments
- Subscription for Trustees can be paid in five equal annual installments

SUBSCRIPTION FOR MEMON ALAM

For Pakistan: Rs. 500 per annum For Other Countries: US \$50 per annum

ADVERTISEMENT TARIFF FOR MEMON ALAM

Back Page US \$500 per issue Inside Title Page US \$400 per issue Inside Back Page US \$350 per issue US \$250 per issue Other pages

SPECIAL DISCOUNTS

For 12 issues in a year 30% For 8 issues in a year 20% For 4 issues in a year 10%





Pulse India

P.O.Box: 64617, Al-Ras, Deira, DUBAI (UAE)
Tel: 2291779 Fax: +971-4-2261799 Mobile: +971556875677
E-mail: pulseind@eim.ae Website: www.ranani.com

Manufacturer of Quality Pulses

Pulse India

SPICES & GRAIN PROCESSING LLC.

Factory: P.O Box 21270 Al-jurf AJMAN (UAE) Mob: +971504244025 & +971554244025

SINGAPORE OFFICE

Pulse India overseas (s) PTE LTD

EXPORT OF PULSES SINGAPORE

Mohamed Yasin Ranani Managing Director Mohamed Astak Ranani Managing Director

Memon Community's Role during Natural Calamities

The Memon Community, being famous for its philanthropic activities, has played a key role during natural calamities. Looking back at the annals of history, we observe that Memon Community did play its valuable part during the Bihar Earthquake (15 January 1934), the Cyclone/Floods in East Pakistan (12 November 1970), the Quetta Earthquake (13 May 1935), the Gujarat Earthquake (26 January 2001), the Indian Ocean Tsunami (26 December 2004), the Pakistan Earthquake (8 October 2005) and the recent Floods in Pakistan (July 2010). Besides, the Memon community also extended its best possible support during the earthquakes in Turkey, Calcutta and Kashmir.

"The relief work extended by the Memon Community has always been recognized by the governments of the respective countries, including the British government since pre-partition days...."

It is noteworthy to mention that Mr. Abdul Sattar Haji Suleman Naviwala was awarded the 'Qaiser-Hind' by the then Viceroy of India for his contribution during the Bihar and Quetta Earthquakes under the banner of Memon Relief Committee. The Pakistan Government honored Mr. Usman Suleman with the coveted 'Sitara-e-Khidmat' for his services during the flood relief activities in East Pakistan in 1970. This is sufficient proof that the relief work has always been recognized by the governments of the respective countries, including the British government.

The Memons have also played a significant role in other dire circumstances such as during partition of the Indian subcontinent, wherein thousands of Indian Muslims started to migrate to Pakistan. Within a short span of time, Pakistan was faced with a huge influx of immigrants; most of them were penniless and homeless. In order to cater to this emergency, some of renowned Memons of that time, under the aegis of Memon Relief Committee, established Relief Camps at Porbandar, Bombay and Okha in India and at Khokrapar and Karachi in Pakistan to provide food, medicine, transportation and shelter at no cost to Memons and Non-Memons alike.

Over the past five decades the Memon Community has been doing its best for the welfare and well-being of the less fortunate members of the Memon Community. But the work is mostly limited to the specific region under the reach of the Jamats and other welfare organizations. A need was felt to form an international umbrella organization of the Memon Community to bring the entire Memon Community of the world under one platform, this lead to the formation of the World Memon Organisation (WMO) in the year 2002. WMO has been doing excellent work for Memon Community in particular and the humanity at large.

WMO and Natural Calamities

Immediately after the devastating earthquake on 8th October 2005 in Pakistan, the World Memon Organisation, Pakistan Chapter, in association with All Pakistan Memon Federation started the relief work in the affected areas by providing food, medicines, tents, clothes, cash, etc. A medical camp was setup in association with Patel Hospital at H-11, Islamabad. After the emergency relief work was over, about 300 houses were constructed to rehabilitate the homeless earthquake victims.

Now in July 2010, after the floods have wreaked havoc in Pakistan, the Memon Community has responded to the plight of millions of displaced and desperate flood victims. The World Memon Organisation (WMO) has setup the WMO's Pakistan Flood Relief Fund in association with the Shaikhani Foundation.

The theme of this issue of Memon Alam is "Pakistan Floods A Disaster like Never Before". The articles in this issue will give a clear picture of the role of the Memon Community, especially WMO and Shaikhani Foundation, during the Floods in Pakistan which has proved to be a disaster with no precedent in the entire history of the region.

Pir Muhammad A. Kaliya Chief Editor, Memon Alam



Elections for the Board of Management (2010-2011)

13th September 2010

To

All Apex, Institution, Corporate, Annual and Life Members, Patrons and Trustees of World Memon Organization (WMO)

Dear Members Assalamualaikum

As you are aware, I have been appointed as the Election Commissioner (EC) at the 4th Meeting of the Board of Management held in Dubai on 12th December 2009. In this connection, I would like to draw your attention to the following important matters:

- The Regional Elections for the Board of Management (2010-2011) will be held on Sunday, 28th November 2010 in the respective regions/chapters from 9 a.m. to 5 p.m.
- 2. The venue of the Elections in each region shall be announced by each Regional Election Commissioner (REC) in due course of time.
- The Elections will be held in person and every voter would be required to vote in person expect that a member can become proxy of one other member only for election purposes.
- The number of members to be elected from each region shall be as under:
- i. Pakistan 12 members (10 members from general membership plus 2 seats reserved for ladies)
- ii. India 12 members (10 members from general membership plus 2 seats reserved for ladies)
- iii. Africa 6 members (5 members from general membership plus 1 seat reserved for ladies)
- iv. Europe 6 members (5 members from general membership plus 1 seat reserved for ladies)
- v. America & Canada 6 members (5 members from general membership plus 1 seat reserved for ladies)
- vi. Middle East 6 members (5 members from general membership plus 1 seat reserved for ladies)
- vii. Other Countries (Far East) 6 members (5 members from general membership plus 1 seat reserved for ladies)

Note: All the members of the Region (male and female) will vote for General Members as well as for Ladies Members. The voters are required to cast 12 votes in case of Pakistan and India, and 6 votes in case of other chapters. Ballot papers will treated as invalid if the prescribed number of votes are not cast.

5. Schedule of Events is appended below:

ELECTIONS FOR THE BOARD OF MANAGEMENT (2010-2011) SCHEDULE	
Last Date	
1st November, 2010 at 5 p.m.	
6th November, 2010 at 5 p.m.	
6th November 2010 at 5.30 p.m.	
8th November 2010 at 11.00 a.m.	
on 11th November 2010	
by 13th November 2010	
on 19th November 2010	
20th November 2010 up to 6 p.m	
on 20th November 2010 up to 8 p.m.	



Nomination Papers

All members should submit their Nomination Papers to the Regional Election Commissioner (REC) at their respective chapters/regions only. Any Annual or Life Member who files the nomination papers should have paid his subscription on or before the filing of nomination papers. (6th November, 2010)

Preparation of Ballot Papers

The ballot papers shall be prepared by the Regional Election Commissioner (REC) in which the names of all the valid candidates shall be mentioned in alphabetical order.

Compilation of List of Voters

The Assistant Secretary General of each region shall compile a list of the voters in accordance with the provisions of the Constitution, latest by 26th November 2010. Any Annual member whose subscription remains unpaid on 27th November 2010 till 6 p.m., shall not be eligible to cast the vote in the elections to be held on 28th November, 2010.

Agents of the Candidates

In the elections, the candidates may appoint two agents, who should also be Members of WMO.

Validity of Votes:

All the members of the Region (male and female) will vote for General Members as well as for Ladies Members. The voters are required to cast 12 votes in case of Pakistan and India and 6 votes in case of other chapters. Ballot papers will treated as invalid if the prescribed number of votes are not cast

Counting of Votes

Immediately after the voting, the REC will start counting the votes. The Agents of Candidates would be allowed to witness the counting of votes.

Dispute Resolution

In case of any dispute regarding the validity or otherwise of any vote or any other matter relating to the Elections, the decision Regional Election Commissioner shall be final. However, in case of rejection of a nomination, the aggrieved party may appeal to the Election Commission, whose decision shall be final.

Announcement of Results

The REC will announce the results of the elections immediately after the counting.

The REC will send complete list of the candidates along with the number of votes cast in their favour to the EC, indicating the candidates who have won the elections, latest by 30th November, 2010.

The EC would announce the results of elections in each region at the Annual General Assembly Meeting scheduled to be held on 12th December 2010.

I would like to draw your attention to section 22 of the Constitution and section 4 of the Standing Orders and would humbly request that all members familiarise themselves with the procedures and guidelines set therein.

I conclude this communication by wishing all members well and reminding you all of the very short time available to us and would urge all of you to comply with the timescale.

Salaams

Nowshad Gani

Election Commissioner, WMO

Theme for November 2010 Issue of Memon Alam

Readers are informed that the theme for November 2010 issue of Memon Alam will be "Our Heroes"

All readers are requested to share their views related to the theme latest by 25th November 2010.





Mr. H.M. Shahzad, Assistant Secretary General WMO Pakistan Chapter and Chairman Flood Relief Committee WMO

Mr. Mehmood Shaikhani, Convener Shaikhani Foundation and Co-Chairman Flood Relief Committee



Living for Others


WMO & Shaikhani Foundation Flood Relief





The 2010 Pakistan floods began in July 2010 following heavy monsoon rains in the Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Punjab and Balochistan regions of Pakistan. Present estimates indicate that over two thousand people have died and over a million homes have been destroyed since the flooding began. The United Nations estimates that more than 21 million people are affected and became homeless as a result of the flooding, exceeding the combined total of individuals affected by the 2004 Indian Ocean Tsunami, the 2005 Pakistan Earthquake and the 2010 Haiti Earthquake. At one point, approximately one-fifth of Pakistan's total land area was underwater due to the flooding.

The Government of Pakistan is struggling to cope with the scale of the





disaster and has made a desperate appeal to the international community and the local/international NGOs to help by donating tens of millions of dollars and lend a hand in the Rescue & Relief Operations and arrange for supplies of food and medicine.

During the time of the Pakistan Earthquake in 2005, the World Memon Organisation (WMO) had setup relief camps in the remote mountains and provided medical aid, medicines, food, clothes, blankets, tents and other relief goods to the earthquake victims. Later on, WMO was able to build more than 300 houses and rehabilitate the victims from the generous donations received from the Memon Community.

Now, after the floods have wreaked havoc in Pakistan, the Memon Community has again stepped forward to alleviate the plight of millions of displaced and desperate flood victims through WMO. The World Memon Organisation (WMO) has setup the WMO's Pakistan Flood Relief Fund to play its part in the flood relief and rehabilitation work.

The Shaikhani Foundation which is managed by the heirs of Late Mr. Abu Bakar Shaikhani, Trustee of WMO, has joined hands with WMO to jointly work for the relief and rehabilitation of the flood victims.

Mr. H.M. Shahzad, Chairman, Flood Relief Committee and Assistant Secretary General of WMO and Mr. Mehmood Shaikhani, Convener, Shaikhani Foundation, are working day and night since day one and are completely involved in the Flood Relief Activities. They have to shuttle between Karachi and various Flood Relief Camps located in interior Sindh on daily basis. Besides, these two gentlemen also travelled across Sindh and visit other locations where relief goods are required on emergency basis and distribute goods on behalf of WMO and Shaikhani Foundation.

A base-camp has been setup at Karachi where money and relief goods are arriving. Till date, relief goods worth more than US \$400,000 has been received at base-camp at Karachi and has been transported to various flood relief camps.

Initially, the Flood Relief Camp was based in Sukkur, Sindh when the upper Sindh was inundated by floods. When the waters flowed downstream into lower Sindh, the Flood Relief Camp was moved to Kotri, Sindh.

The Pakistan Rangers (Army) also worked with the World Memon Organisation and Shaikhani Foundation at this stage and provided logistic support.

At this juncture, the Saudi Ambassador to Pakistan Mr. Abdul Aziz Bin Ibrahim-ul-Ghadeer paid a visit to the Flood Relief Camp and distributed gifts to the flood victims. Presently, the Flood Relief Camp is based at Gharo, Sindh.

We are thankful to Col. Tahir Mehmood Commander, 71 Wing, Bhittai Rangers for working with us.


The Office Bearers and Members of the Board of Management of World Memon Organisation (Pakistan Chapter), along with some important local and foreign delegates, paid a special visit to the Flood Relief Camp at Gharo, Sindh, on Sunday, 19th September 2010. The Convener of Shaikhani Foundation was also present.

The Chairperson of WMO Ladies Wing, Madam Hawa Abdullah along with few other members of the Ladies Wing, who were putting a lot of efforts on their own for the above Flood Relief Work, also participated.

The Flood Relief Camp located at Gharo, Sindh, is about 76 kms from Karachi and takes about an hour and halfs drive

This Flood Relief Camp is a mini tent village consisting of 220 tents and where







about 220 families (1400 people) are being given shelter, food, clothing, medicines, medical care and all other day-to-day necessities. The Flood Relief Camp also provided shelter and complete care to about 40 non-Muslim families for whom a special fund has been created.

At the Gharo Flood Relief Camp, food packets consisting of rice, dal, wheat floor, cooking oil, salt, masala, milk, pure drinking water and other items are distributed on weekly basis.

The families have been provided with stoves and cooking gas so that each family can prepare their own meals according to their taste and convenience. Clothes have been distributed to the poor and needy flood victims since these families had to abandon all their belongings and run during the time of the floods.

Special gifts like clothes, footwear, Mehndi (Henna), bangles and Eidi (cash) was distributed to the people, especially children, during the auspicious time of Eid-ul-Pitr

Medical doctors and nurses are available 24 hours to cater to any



emergency cases. It is pleasing to note that two babies have been delivered at the Flood Relief Camp. Any patients requiring further medical treatment are transported to Karachi.

A permanent Masjid has been built at the Flood Relief Camp. Even after the camps are closed and the relief work is over, the Masjid named Masjid-e-Abu Bakar will remain to serve the people of that locality.

After the initial phase of rollef work, World Memon Organisation and Shaikhani Foundation will work on rehabilitating each family and restoring their livelihood. The two organizations will visit their hometown/villagus of each flood affected family and assess the damage of their houses and losses incurred and rehabilitate the families on case to case basis.

The visit was covered by ARY News TV and the delegates were interviewed by the ARY News Team and the Office Bearers of WMO, Members of Board Management, Members Ladies Wing and Office Bearers of Shaikhani Foundation presented their views

Service to humanity is service to Allah. Whatever little we can do for our suffering brethren will go a long way in restoring the lives of these desperate and homeless people.

May Almighty Allsh guide us all to put in our best efforts and contribute more and more for this noble cause.

Aameen





Mr. H.M. Shahzad, Chairman, Flood Relief Committee and Assistant Secretary General of WMO

Mr. Mehmood Shaikhani, Convener, Shaikhani Foundation

Memon Alam: Thank you for taking part in this interview, Mr. H.M. Shahzad (WMO) and Mr. Mehmood Shaikhani (Shaikhani Foundation). How did you get the idea that WMO and Shaikhani Foundation should work together?

Mehmood Shaikhani: WMO an organization which is well-known nationally and internationally, and Shaikhani Foundation discussed the floods and the need for immediate relief work; both the organisations immediately decided to make it a joint venture. This decision was taken so as to expand the limits, strengthen efforts jointly and speed-up the relief process.

H.M. Shahzad: Mr. Mehmood Shaikhani is a close friend and like a family member. His father, Late Mr. Abu Bakar Shaikhani was a Trustee of WMO and very close to me. Mr. Abu Bakar Shaikhani died in a USA hospital after illness and his dead body was brought back to Karachi by air. It is a sad coincidence that we were returning from Dubai to Karachi in the same flight which was transporting the dead body of late Mr. Abu Bakar Shaikhani.

During the course of conversation with Mr. Ahmed Shaikhani, brother of Mr. Mehmood Shaikhani, at the Fateha of Mr. Abu Bakar, we decided in less than 10 minutes to do the flood relief work together. Mr. Ahmed Shaikhani is based in U.A.E. and is also the Acting Assistant Secretary General of WMO Middle East Chapter. The very next day, we were in the field visiting various flood affected areas to select a suitable location for setting up a huge Flood Relief Camp.

Only a couple of days before this, we had discussed in detail about the start of the Flood Relief Work by WMO with Haji Sahab (Haji Abdul Razzak Yaqoob, ARY), President of WMO, who immediately contacted various members who spontaneously made sizeable commitments to donate to the WMO Flood Relief Fund.

Both WMO and Shaikhani Foundation had concrete plans to go into Flood Relief Work and both decided to join hands after the mutual discussion.

Memon Alam: What was the modus operandi in carrying out the relief activity?

Mehmood Shalkhanl: Initially, we had planned to distribute flood relief goods only. But in a very short while, we decided to establish a tent village. We visited Jaiti in Sujawal district where a lot of flood victims were in a helpless condition. We took these families to Gharo, Sindh, where we established our Flood Relief Camp, a joint venture of World Memon Organisation (WMO) and Shaikhani Foundation. At that time, we made a decision to concentrate fully on rescue, relief and rehabilitation of 250 families. We have named the Rescue & Relief operation as DARD. This means pain. By this we do not only mean the pain and suffering of the flood affected victims, who had lost everything their homes, their livelihood, etc, but DARD means that we have to realize that any kind of disaster, Allah forbid, can happen to any one of us.

After the Rescue & Relief work is complete, we plan to launch MERA NAYA GHAR (My New Home) wherein these families will be provided with houses and a means of livelihood. Every effort will be made to restore their lives back to normal.

H.M. Shahzad: Pakistan Rangers provided with escort to our flood relief convoys since a lot of looting was taking place.

Memon Alam: We understand that quite a lot of people posed as flood victims to take undue advantage. How did you choose the actual flood victims from the imposters? Secondly, some flood victims were unwilling to leave their homes despite the flood water in their places. Did you face such a situation?

H.M. Shahzad: After a long search, we finally found a suitable place at Gharo for the Flood Relief Camp. We are happy that we were able to identify genuine flood victims, 230 families in all, whom we housed in our relief camp. We also took 35 Hindu families into our camp on humanitarian basis since nobody was willing to help them.

Memon Alam: How many individuals were there in the 230 families? Can you share some of your esperiences in the camo?

H.M. Shahzad: There were about 2000 individuals in the 230 families. These people were provided with all kinds of help and provisions; EIDI (cash gifts), clothes, footwear, bangles for children, etc. We wish to inform you that circumcision for 75 children was also arranged by us. Besides, we also arranged marriage ceremony for a couple families at the flood relief camp. Nine children were also born at the camp. Besides, many people who were not staying in the camp used to come on daily for short-term help.



Memon Alam: You made it like a small township. Can you share some of your experiences at the camp?

H.M. Shahzad: We were visited by many dignitaries and officials from various governmental and non-governmental organisations (NGOs) who were all praise for the well-managed and excellent facilities at the Flood Relief Camp.

Mehmood Shaikhani: Al Hamdulillah, we were receiving so much relief goods that, at times, we had to distribute the excess to other flood relief camps. Our flood relief camp was setup for 6 weeks duration. Since the last three weeks, relief goods such as ration, milk, water are transported by our team in trucks to flood affected areas in Bhan Saeedabad. At some places, we have to transport the goods by boat as well.

H.M. Shahzad: Bhan Saeedabad was inundated with 12 to 14 feet of water over 8 to 10 kilometers area. It took 14 hours to reach the place via Dadu

Mehmood Shaikhani: We want a selfsustainable future for the flood victims. We don't want them to be dependent on aid. That is why; we are planning a phase-wise program to help the deprived families by providing them with a means of livelihood. We plan to provide sewing machines, embroidery machines, livestock, etc to help them start a new life.

H.M. Shahzad: We have tried the Rozgar (employment) Scheme at the relief camp itself. We hired 30 boys from the flood relief camp to work at the camp. This gave us an opportunity to interact with them and know their problems. I am sure that these youth will never forget WMO and Shaikhani Foundation.

During the time of Eid-ul-Fitr, we decided to make the affected families at the relief camp to feel completely at home. Mr.

Mehmood Shaikhani was very kind enough to purchase 2000 dresses plus bangles, mehndi (henna), hairclips. He also arranged special lunch from Karachi for 2000 families on Eid day.

Memon Alam: It must have been the most memorable EID in your lifetime.

H.M. Shahzad: We were seeing the reality, a reality which brought tears in our eyes. Almighty Allah had given us an opportunity to serve others.

Mehmood Shaikhani: DARD is not pain. It is an emotion and sympathy. We have to feel it in ourselves that it can happen to anyone, even us. For example, what if we had floods in Karachi and all poor and rich were equally affected. I would be like anyone else I can't cook or eat and have no shelter. I will be standing with others, waiting to be rescued. We have to bring that emotion and sympathy within us. And on the other hand, if we have something like ILM (knowledge) or money with us, then we have to distribute the same to others.

One real-life example is the father of the girl whom we got married at the relief camp. He was well-to-do person before the floods and could have easily afforded to spend Rs. 1 million on the marriage of his daughter. But now, he was in the relief camp with nothing. This is the reality and we have to believe in this reality.

Memon Alam: Were you mentally prepared to see all this before you started your relief camp?

H.M. Shahzad: Definitely not! We travelled 750 kilometers and we did understand the situation. In some places. there was no need for flood relief from us since many other agencies and individuals had already reached them and were providing them with needed relief. We realized that there was no communication or coordination between various agencies working for the flood relief. We, then, talked to the government officials who told us that there were many far-off areas where help had not yet reached. We are thankful to Almighty Allah, that we were able to reach very remote areas in interior Sindh.

The Ambassador of Saudi Arabia in Pakistan was passing by and paid a visit to our flood relief camp. He handed us 10,000 packets of milk and dates and asked us to distribute the same. This proves that he had so much confidence in us.

We got so much satisfaction in the work. If we had not done this work, it would have



MEMON ALAM • OCTOBER 2010

IN FOCUS

been a very great regret. The people over there had more than 8 feet of water in their villages that had to leave everything, including their cattle, to their fate.

We have also built a mosque Masjid-e-Abu Bakar at the flood relief camp at Gharo. This will remind the residents that WMO and Shaikhani Foundation had been here.

Memon Alam: You talked about ILM. Can you tell us more about it?

Mehmood Shaikhani: We plan to build a school, a mosque and a clinic besides other amenities. We had a talk with the DCO for allotment of land where we plan to build 500 houses. Initially, we will build 100 houses with 30 houses in each Goth (village) and hand over the ownership papers to the affected families.

Regarding ILM, we plan to provide complete education to 300 children. We are discussing this issue with the officials and hope to accomplish it but it will take some time.

Memon Alam: What about funds?

H.M. Shahzad: Only a couple of days before WMO and Shaikhani Foundation started this work, we had a meeting with Haji Abdul Razzak Yaqoob (ARY), President of World Memon Organisation (WMO). During the meeting, Haji Abdul Razzak made phone calls to several members of WMO overseas. Within minutes, we had a commitment for US \$100,000/-. We thank all the chapters of WMO, namely South Africa, Middle East, Europe, USA and Pakistan for the support and encouragement. We offer special

thanks to all our donors and well-wishers for their contribution for the victims of flood. All this proves the spirit of service in these people.

The Pakistan Rangers (army) also supported us too much.

Memon Alam: Regarding your plan to build 100 houses, do you plan to find a sponsor for each house?

H.M. Shahzad: We might try to find sponsors and obtain funds in the initial stage, as WMO did while building houses for Earthquake Victims of 2005. At present, we are holding discussions with architects and engineers and also with the government for allotment of land. By the Grace of Almighty Allah, we have more Rs.20 million with us and hope to gain additional donation with the passage of time.

Mehmood Shaikhani: We started with a belief and conviction. We made the Niyah (intention) and Almighty Allah made it easy for us. Insha Allah, we have the Niyah for our future plans and Allah ta'ala will guide us. We need about Rs.65,000/- per bouse

Memon Alam: How much participation do you expect from the general public?

H.M. Shahzad: You would be pleased to hear that the young students of the Memon Industrial & Technical Institute (MITI) donated their pocket money and teachers donated part of their salary. The students of Raunaq-e-Islam Schools donated all their pocket money. The people of Karachi did a lot. Allah ta'ala has given them a very sympathetic heart.

Memon Alam: Are you satisfied with the activities you have done so far? Did you do enough?

H.M. Shahzad: We are satisfied to a certain extent. But still this is very little we have done; a lot more has to be done. Al Hamdulillah, we did a token work. Still there is a lot more to do. We will, Insha Allah, build more than 500 houses.

Memon Alam: Can you tell us about any memorable incident?

H.M. Shahzad: One poor woman was in her last days of pregnancy and she was expecting any moment. She was sent to Gharo Civil Hospital but the doctor's said it was gone-case and the fetus not alive. However, we were not satisfied with the diagnosis at Gharo Civil Hospital and sent her to Jamal Noor Hospital, Karachi where she stayed in hospital and came back to the camp alive.

Another event, a woman was suffering from mouth cancer and was in very serious condition. However, she was sent to Karachi for treatment and provided all medical facilities. She was alright and returned back to the camp after 10 days. It was all Cheers!

Memon Alam: What is your message to the community?

H.M. Shahzad: Such incidents do happen. But it is our duty to rise to the occasion to help the affectees.

Mehmood Shaikhani: Thank God. He was kind enough to guide us and select for this noble cause; Living for Others.





WMO & Shaikhani Foundation Change Hands with the Pakistan Army at C.O.D. Karachi





6 Trucks loaded with the relief goods containing food items, clothing, blankets, tents, medicines,...etc. Major contributions in goods were received from International donors.

The only way to escapement

In the name of Allah, the Most Beneficent and the Most Merciful

of divine mercy & favor despite being a part of the Ummah of the last Prophet (PBUH)? Pakistan is confronted with the most difficult situation today both on the internal and external fronts and its survival and solidarity are extremely under threat. Economically almost insolvent, the recent floods have gravely devastated all the four provinces severely effecting more than twenty millions people directly. Our losses in men and material are beyond imagination. The nation has been afflicted with severe blow as thousands of people have become victim to the floods and property and infrastructure worth billions has been washed away. Alongside this natural calamity, the bloody inhumane target killing in Sindh and Baluchistan are going on unabated. The tug of war between the executive and the judiciary has further rendered the future of the country into a state of dreaded apprehensions. On the

by are we deprived of all kinds

external front the enemies of Islam have practically impounded us in the clutches of their servitude. The forces of infidelity have joined hands for the complete encirclement of Pakistan. Despite all this no change is seen in the collective attitude of the Pakistani Muslims.

We have fertile lands filled with golden treasures. We have all type of material wealth and resources. We are atomic power, yet hunger and fear are chasing us. We believe in One God and the Holy Quran, yet the infidels have overpowered and compounded us. This very important country of the Islamic world is every now and then confronted with different natural calamities including floods, earthquakes etc. Let's ponder as to why it is so? Why we are cut off from the beneficence of Almighty Allah? Let's think a while what are our crimes for which we are being punished? The only way to escapement

To mend ourselves and to repent on what we have been doing is the only way to escapement. Let's revive our pledge with Almighty Allah. It should be repentance both at individual and collective level. To entreat Allah on our past crimes and to promise not to indulge again in such things for future will be a real "Tauba". However, we have to renew our pledge for the struggle to implement the Quranic Law in the country to make an Islamic welfare state. Let's pledge that our executive, our judiciary and our parliament should all be ruled by the Divine Law.

Let's bow our heads our Allah and pray for the pardon of our past sins. He is the Real Forgiver, if we prove to be the real repentant. For future we make a pledge of implementing Islam in totality and make strenuous efforts to make Allah's Deen dominant. In this way we can recompense for our shortcomings and can get the mercy of Allah. If we fail to repent and do not mend ourselves, there is every possibility of sustaining severe punishments both here and in the Hereafter.

ARMY SUPLUS STORES

60 Mitchell Street, Pretoria West, Gauteng.

Tel: (012) 327-3282 Fax: (012) 327-1194 Cell: 082 898 7961 E-mail: army@armystores.co.za Website: www.armystores.co.za www.armystores.biz

0337276926

Tents

Plastic Tarps

Jerry Cans

Blankets

Kitchen Sets

Relief Items

Logistics

Importers, Exporters, Manufactures & Traders Of:
Aid & Relief Equipment, Camping, & Outdoor Suppliers, General Commodities
and Sourcing agents!!

We are based in Pretoria, South Africa. We serve the local and re-export markets in and around the globe. Our aim is to better serve our clients and source ready stocks of items that are urgently needed in Africa and around the globe. Customer service is a priority with us, you will be pleasantly surprised at our quick response time to your enquiries. We go the extra mile to locate products you need just ask!! We are currently supplying many traders such as: NGO'S, Aid organizations, Camping wholesalers, Chain stores, Military and Defense Forces, Building contracting companies, General merchants and a Agents from across the globe.

CORR-FORM

ROOFING, MANUFACTURERS, & SUPPLIERS OF STEEL PRODUCTS

CORRUGATED • IBR • WIDE-SPAN

- CORRUGATED ROOF SHEETING
- IBR ROOF SHEETING
- ROUNDED GUTTERS
- SQUARE GUTTERS CORNER
- FLASHINGS
- ROLL UP RIDGING
- BULL NOSING
- SELF DRILLING SCREWS
- ZINC ROOF TILING
- DOWN PIPES
- GUTTER BBRACKETS
- GUTTER OUTLETS & CLOSURES



AVAILABLE IN CHROMADEK, GALVANIZED & ALUZINC

TEL: 012 327 1121 FAX: 012 327 1199 315 Soutter Street, Pretoria West, 0183 E-mail:army@armystores.co.za

Directors: Sikander, Feizul & Aadil N.M.Ayob



Shaikhani Foundation joins hands with WMO to help flood victims in Pakistan

Foundation's temporary camp in Thatta Gharo, Sindh currently accommodates 300 displaced Pakistanis

Shaikhani Group, a multibillion dollar international business conglomerate with interests in real estate development, trading, manufacturing and IT, has launched a charity organisation called the 'Shaikhani Foundation' with the aim to help victims of the massive floods that hit Pakistan this year and left 4 million people homeless. Among the Foundation's first initiatives was the setting up of the Thatta Gharo Flood Relief Camp, a temporary camp in the Thatta District of Sindh province in Pakistan, which is currently accommodating around 300 displaced Pakistanis. The joint initiative is undertaken with the World Memon Organisation (WMO), a non-profit, global charity group, and marks Shaikhani Group's latest Corporate Social Responsibility (CSR) initiative in its long list of global humanitarian projects, majority of which were undertaken through the Rabia Charitable Foundation and Rabia Relief Fund.

Weekly food rations, which include rice, dal, wheat flour, cooking oil, salt, masala, milk, clean drinking water and other items are provided to the people staying within the camp, in addition to medicine and medical care, and facilities that serve as a temporary Mosque and schools. The Shaikhani Foundation is managed by Mehmood Shaikhani, Chairman, Flood Relief Committee; son of the late Abu Baker Shaikhani and a trustee of WMO; with H.M Shahzad, Asst. Secretary-General of WMO, Pakistan Chapter. Together, Shaikhani Foundation and WMO have pledged a total of around PKR 20 million towards the early rehabilitation of the victims of the devastating catastrophe.

"The establishment of the 'Shaikhani Foundation' will further contribute for the relief fund for the people of Pakistan, which aims to provide relief and contribution on a continual basis to affected people of Pakistan and all over the world too, wherever required," said Mehmood Shaikhani. "We would like to thank the strong support we are receiving from the World Memon Organization, as well as the Pakistan Rangers, whose continuous logistical aid fuel our efforts to provide relief activities between Karachi and various Flood Relief Camps located in interior

Sindh on a daily basis, especially during emergencies. After the initial phase of relief work, the WMO and Foundation's plans will focus on rehabilitating each family and restoring their livelihood, as part of its commitment to uplifting the quality of life of people around the world."

The Shaikhani Group has delivered over 30,000 units across the globe, and currently maintains presence within 90 countries spread across Asia, Africa, Middle East and Europe. With over three decades of experience in delivering unique offerings and services to its global customers, the Group boasts of extensive expertise in the real estate market, construction, manufacturing, trading and IT sectors. In addition to its successful business, the Group has also built a strong reputation for its unwavering support for various causes such as poverty alleviation, environmental conservation and academic development. As a socially-aware international corporation, the Group has devoted 19 years in support of the Rabia Charitable Foundation and the Rabia Relief Fund.

Challenging Spirit





Since 1965, Mehran Sugar Mills Limited has been in the business of producing premium quality white refined sugar and allied products. We have laid our foundation on solid principles aimed to assure a leadership position in the industry. We stride with a challenging spirit based on modern management principles. We consider our farmers as our back bone and continually propagate to increase plantation of sugarcane through diversified incentives.

Corporate social responsibility is a vital part of our philosophy. It is an inherent vision of the Company to have a significant positive contribution towards the society. We are constantly working towards improving the health and education standards in our area.



The Virtues and Laws of Qurbani/Udhiyya

"It is neither their flesh nor their blood that reaches Allah, but it is your Taqwa that reaches Him..." (Surah Hajj)

braheem (Alayhis Salaam) had two alternatives: either to follow the cry of his heart or to submit to the call of his Creator. He chose to submit. Qurbani therefore is not a monetary Ibaadah or a duty that is discharged in distant poor countries. Qurbani is a personal experience, an intimate and emotional encounter, an intimate occurrence made real by the oozing of blood.

Qurbani is about:

Love for Allah in contrast to love of self obedience.

Loyalty to Allah in preference to loyalty to the family.

Faith versus emotion.

Struggle as opposed to pleasure.

Where is this spirit of Qurbani in our idle and aimless nights and days? Who is able to place the knife on his heart in order to slaughter the beasts of rebellion, hatred, jealousy, pride, and greed etc.? Qurbani is an annual reaffirmation of our pledge to Allah, a pledge that:

"Verily my prayer, my sacrifices, my life and my death are surrendered to Allah; the Rabb of the worlds."

Eid-ul-Adha reverberates with the cries of surrender, submission, and sacrifice. It is a grim reminder that life is about action, struggle, and endurance.

Virtues of Ourbani

Qurbani is a practice directly instructed by Allah Ta'ala:

"So turn in prayer towards your Lord and sacrifice (animals)." (108.2)

Rasoolullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam has extolled its virtue in many Ahadith.

There is nothing dearer to Allah Ta'ala during the days of Qurbani than the sacrificing of animals. The sacrificed animal shall come on the Day of Judgment with its horns, hair, and hooves (to be weighed). The sacrifice is accepted by Allah before the blood falls on the ground. Therefore sacrifice with an open and happy heart. (Tirmizi, Ibn Majah)

Zayd Ibn Arqam Radhiyallaahu Anhu relates that the Companions Radhiyallaahu Anhum queried, "O Rasoolullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam, What is Qurbani?" He replied, "It is the Sunnah of your father Ibraheem Alayhis Salaam." They again asked, "What benefit do we derive from it?" He answered, "A reward for every hair (of the sacrificed animal)." "And (what reward is there for animals with) wool, O' Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam)?" they asked. "A reward", he said, "for every fibre of the wool." (Ibne Majah)

When a person slaughters a Qurbani animal, he is forgiven at the fall of the first drop of blood, and verily, the animal shall be brought forward on the Day of Judgment with its blood, meat, limbs, etc. and shall be increased in weight seventy times, and then placed on the scale of deeds. (Kanzul Ummal)

On whom is Qurbani Wajib (obligatory)?

Qurbani is Wajib (obligatory) on every Muslim who is: of sound mind - mature (has reached the age of puberty), Muqeem (i.e. he is not a Shari traveller)

Possesses the amount of 612,36 grams of silver or wealth equivalent to that value which is in excess of one's basic needs and debts, on any of the three days of Qurbani. It is not necessary that this amount be in one's possession for a complete lunar year. (Fatawa Hindiyyah)

Note:

- Qurbani is not incumbent on a child or an insane person whether they own wealth equivalent to the amount above or not, nor is it Wajib upon their guardians to perform it on their behalf. (Fataawa Mahmoodiyyah)
- 2. Similarly, it is not Wajib on a Musaafir (one considered a traveller in Shariah). A Shar'i traveller is he who proceeds on a journey with an intention of travelling 77

SPECIAL EDITION

braheem (Alayhis Salaam) had two alternatives: either to follow the cry of his heart or to submit to the call of his Creator. He chose to submit. Qurbani therefore is not a monetary Ibaadah or a duty that is discharged in distant poor countries. Qurbani is a personal experience, an intimate and emotional encounter, an intimate occurrence made real by the oozing of blood.

Qurbani is about:

Love for Allah in contrast to love of self obedience.

Loyalty to Allah in preference to loyalty to the family.

Faith versus emotion.

Struggle as opposed to pleasure.

Where is this spirit of Qurbani in our idle and aimless nights and days? Who is able to place the knife on his heart in order to slaughter the beasts of rebellion, hatred, jealousy, pride, and greed etc.? Qurbani is an annual reaffirmation of our pledge to Allah, a pledge that:

"Verily my prayer, my sacrifices, my life and my death are surrendered to Allah; the Rabb of the worlds."

Eid-ul-Adha reverberates with the cries of surrender, submission, and sacrifice. It is a grim reminder that life is about action, struggle, and endurance.

Virtues of Qurbani

Qurbani is a practice directly instructed by Allah Ta'ala:

"So turn in prayer towards your Lord and sacrifice (animals)." (108.2)

Rasoolullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam has extolled its virtue in many Ahadith

There is nothing dearer to Allah Ta'ala during the days of Qurbani than the sacrificing of animals. The sacrificed animal shall come on the Day of Judgment with its horns, hair, and hooves (to be weighed). The sacrifice is accepted by Allah before the blood falls on the ground. Therefore sacrifice with an open and happy heart. (Tirmizi, Ibn Majah)

Zayd Ibn Arqam Radhiyallaahu Anhu relates that the Companions Radhiyallaahu Anhum queried, "O Rasoolullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam, What is Qurbani?" He replied, "It is the Sunnah of your father Ibraheem Alayhis Salaam." They again asked, "What benefit do we derive from it?" He answered, "A reward for every hair (of the sacrificed animal)." "And (what reward is there for animals with) wool, O' Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam)?" they asked. "A reward", he said, "for every fibre of the wool." (Ibne Majah)

When a person slaughters a Qurbani animal, he is forgiven at the fall of the first drop of blood, and verily, the animal shall be brought forward on the Day of Judgment with its blood, meat, limbs, etc. and shall be increased in weight seventy times, and then placed on the scale of deeds. (Kanzul Ummal)

On whom is Qurbani Wajib (obligatory)?

Qurbani is Wajib (obligatory) on every Muslim who is: of sound mind - mature (has reached the age of puberty), Muqeem (i.e. he is not a Shari traveller)

Possesses the amount of 612,36 grams of silver or wealth equivalent to that value which is in excess of one's basic needs and debts, on any of the three days of Qurbani. It is not necessary that this amount be in one's possession for a complete lunar year. (Fatawa Hindiyyah)

Note:

- Qurbani is not incumbent on a child or an insane person whether they own wealth equivalent to the amount above or not, nor is it Wajib upon their guardians to perform it on their behalf. (Fataawa Mahmoodiyyah)
- 2. Similarly, it is not Wajib on a Musaafir (one considered a traveller in Shariah). A Shar'i traveller is he who proceeds on a journey with an intention of travelling 77 kms. He will be treated as a traveller as soon as soon as he leaves his town. However if he intends residing at any place for 15 days or more then he will cease to be a traveller when he arrives at that location. (Fatawa Hindiyyah)
- A person upon whom Qurbani is not necessary should not incur debts beyond one's capacity to offer the Qurbani.
 If Qurbani is not compulsory on a person, for example a Musaafir, then it is virtuous to do so if it is within the person's means.

The Physical Qurbani

During the days of Qurbani, Sadaqah and charity will not compensate for the physical observance of Qurbani. Just as Zakaah cannot compensate for Hajj, nor fasting compensate for Salaah, similarly charity cannot compensate for Qurbani. However, if the days of Qurbani have passed, and the Qurbani was not offered due to ignorance, negligence or for some other valid reason, then it becomes Wajib to give in Sadaqah the price of Qurbani animal or the animal itself (alive, not slaughtered) to the poor. (Fatawa Shamiya)

Time for Qurbani

The time for Qurbani begins after the Eid Salaah on the 10th of Zul Hijjah and ends at the setting of the sun on the 12th of Zul Hijjah. It is better to make Qurbani on the first day, then the second, and thereafter the third. (Fatawa Shamiya)

If the Qurbani has been offered before the Eid Salaah, it will have to be repeated. (Fatawa Hindiyyah)

In rural and village areas where Jumu'ah and Eid Salaah are not performed, Qurbani may be performed as soon as Fajr (Subhus Saadiq) sets in on the 10th of Zul Hijjah. (Fatawa Hindiyyah)

If a person residing in a town (where Eid salaah is performed) arranges for his animal to be slaughtered in a village (where Eid Salaah is not performed), then it is permissible for his animal to be slaughtered before he performs his Eid Salaah. (Fataawa Shaamiyyah)

It is preferable to slaughter during the day. (Fatawa Hindiyyah)

The Qurbani Animal

It is permissible to slaughter a goat, sheep, cow, bull, buffalo or camel, male or female for Qurbani.

The minimum age of:

(a)A goat, sheep, or ram is one full year,(b)A cow, bull or buffalo is two years old, and

(c)A camel five years.

Animals that are younger than the prescribed age are not suitable for Qurbani. (Fataawa Hindiyyah)

If a sheep is more than six months old but less than a year, and physically appears to be one year old it will suffice for Qurbani. (Fatawa Hindiyyah)

A cow, bull, buffalo or camel will suffice for seven persons provided no one's share is less than one seventh and the niyyah (intention) of all partners is to attain reward and not merely to obtain meat. (Fatawa Shaamiyah)

A goat, sheep or ram will suffice for the Qurbani of one person only. (Fatawa Hindiyyah)

It is permissible and preferable to slaughter a castrated animal. (Fatawa Mahmoodiyah)

It is advisable to purchase the Qurbani animal a few days prior to slaughtering in order to build up some form of attachment with the animal by taking care of it. (Fatawa Hindiyyah)

Animals chosen for Qurbani should be healthy, free from faults and defects. (Fatawa Shaamiyah)

Animals with Defects

The following animals are not suitable for Qurbani:

1) An animal that is blind, one-eyed or

SPECIAL EDITION

braheem (Alayhis Salaam) had two alternatives: either to follow the cry of his heart or to submit to the call of his Creator. He chose to submit. Qurbani therefore is not a monetary Ibaadah or a duty that is discharged in distant poor countries. Qurbani is a personal experience, an intimate and emotional encounter, an intimate occurrence made real by the oozing of blood.

Qurbani is about:

Love for Allah in contrast to love of self obedience.

Loyalty to Allah in preference to loyalty to the family.

Faith versus emotion.

Struggle as opposed to pleasure.

Where is this spirit of Qurbani in our idle and aimless nights and days? Who is able to place the knife on his heart in order to slaughter the beasts of rebellion, hatred, jealousy, pride, and greed etc.? Qurbani is an annual reaffirmation of our pledge to Allah, a pledge that:

"Verily my prayer, my sacrifices, my life and my death are surrendered to Allah; the Rabb of the worlds."

Eid-ul-Adha reverberates with the cries of surrender, submission, and sacrifice. It is a grim reminder that life is about action, struggle, and endurance.

Virtues of Qurbani

Qurbani is a practice directly instructed by Allah Ta'ala:

"So turn in prayer towards your Lord and sacrifice (animals)." (108.2)

Rasoolullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam has extolled its virtue in many Ahadith

There is nothing dearer to Allah Ta'ala during the days of Qurbani than the sacrificing of animals. The sacrificed animal shall come on the Day of Judgment with its horns, hair, and hooves (to be weighed). The sacrifice is accepted by Allah before the blood falls on the ground. Therefore sacrifice with an open and happy heart. (Tirmizi, Ibn Majah)

Zayd Ibn Arqam Radhiyallaahu Anhu relates that the Companions Radhiyallaahu Anhum queried, "O Rasoolullah Sallallaahu Alayhi Wa Sallam, What is Qurbani?" He replied, "It is the Sunnah of your father Ibraheem Alayhis Salaam." They again asked, "What benefit do we derive from it?" He answered, "A reward for every hair (of the sacrificed animal)." "And (what reward is there for animals with) wool, O' Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam)?" they asked. "A reward", he said, "for every fibre of the wool." (Ibne Majah)

When a person slaughters a Qurbani animal, he is forgiven at the fall of the first drop of blood, and verily, the animal shall be brought forward on the Day of Judgment with its blood, meat, limbs, etc. and shall be increased in weight seventy times, and then placed on the scale of deeds. (Kanzul Ummal)

On whom is Qurbani Wajib (obligatory)?

Qurbani is Wajib (obligatory) on every Muslim who is: of sound mind - mature (has reached the age of puberty), Muqeem (i.e. he is not a Shari traveller)

Possesses the amount of 612,36 grams of silver or wealth equivalent to that value which is in excess of one's basic needs and debts, on any of the three days of Qurbani. It is not necessary that this amount be in one's possession for a complete lunar year. (Fatawa Hindiyyah)

Note:

- 1. Qurbani is not incumbent on a child or an insane person whether they own wealth equivalent to the amount above or not, nor is it Wajib upon their guardians to perform it on their behalf. (Fataawa Mahmoodiyyah)
- 2. Similarly, it is not Wajib on a Musaafir (one considered a traveller in Shariah). A Shar'i traveller is he who proceeds on a journey with an intention of travelling 77 kms. He will be treated as a traveller as soon as soon as he leaves his town. However if he intends residing at any place for 15 days or more then he will cease to be a traveller when he arrives at that location. (Fatawa Hindiyyah)
- A person upon whom Qurbani is not necessary should not incur debts beyond one's capacity to offer the Qurbani.
 If Qurbani is not compulsory on a person, for example a Musaafir, then it is virtuous to do so if it is within the

The Physical Qurbani

person's means.

During the days of Qurbani, Sadaqah and charity will not compensate for the physical observance of Qurbani. Just as Zakaah cannot compensate for Hajj, nor fasting compensate for Salaah, similarly charity cannot compensate for Qurbani. However, if the days of Qurbani have passed, and the Qurbani was not offered due to ignorance, negligence or for some other valid reason, then it becomes Wajib to give in Sadaqah the price of Qurbani animal or the animal itself (alive, not slaughtered) to the poor. (Fatawa Shamiya)

Time for Qurbani

The time for Qurbani begins after the Eid Salaah on the 10th of Zul Hijjah and ends at the setting of the sun on the 12th of Zul Hijjah. It is better to make Qurbani on the first day, then the second, and thereafter the third. (Fatawa Shamiya)

If the Qurbani has been offered before the Eid Salaah, it will have to be repeated. (Fatawa Hindiyyah)

In rural and village areas where Jumu'ah and Eid Salaah are not performed, Qurbani may be performed as soon as Fajr (Subhus Saadiq) sets in on the 10th of Zul Hijjah. (Fatawa Hindiyyah)

If a person residing in a town (where Eid salaah is performed) arranges for his animal to be slaughtered in a village (where Eid Salaah is not performed), then it is permissible for his animal to be slaughtered before he performs his Eid Salaah. (Fataawa Shaamiyyah)

It is preferable to slaughter during the day. (Fatawa Hindiyyah)

The Qurbani Animal

It is permissible to slaughter a goat, sheep, cow, bull, buffalo or camel, male or female for Qurbani.

The minimum age of:

(a) A goat, sheep, or ram is one full year,(b) A cow, bull or buffalo is two years old,

(c)A camel five years.

Animals that are younger than the prescribed age are not suitable for Qurbani. (Fataawa Hindiyyah)

If a sheep is more than six months old but less than a year, and physically appears to be one year old it will suffice for Qurbani. (Fatawa Hindiyyah)

A cow, bull, buffalo or camel will suffice for seven persons provided no one's share is less than one seventh and the niyyah (intention) of all partners is to attain reward and not merely to obtain meat. (Fatawa Shaamiyah)

A goat, sheep or ram will suffice for the Qurbani of one person only. (Fatawa Hindiyyah)

It is permissible and preferable to slaughter a castrated animal. (Fatawa Mahmoodiyah)

It is advisable to purchase the Qurbani animal a few days prior to slaughtering in order to build up some form of attachment with the animal by taking care of it. (Fatawa Hindiyyah)

Animals chosen for Qurbani should be healthy, free from faults and defects. (Fatawa Shaamiyah)

Animals with Defects

The following animals are not suitable for Ourbani:

BIRDS EYE VIEW








"Faith and Confidence is the Key to Success"














- Allah! Grant unto us the wisdom to follow the path of truth enjoined in Thine holy book Quran' to unite our community in observance of Thine Commandments.
- Allahl Grant unto the capacity to understand the message brought by Thine Prophet Minhammed (Peace be upon him) to follow the path of those, upon whom Thou bestowed the Blessing and to unite all of us in Thine way and for Thine Pleasure.
- Allah! Help us understand the wisdom
 of Thine Quran and the Sunnah of
 Prophet Mohammad (Peace be upon
 him) so that we may extend help and
 assistance to our needy brothers to
 alleviate the poverty and illiteracy
 from them and thus save them from

"Shirk".

- Allahl Bestow upon us the courage and the goodwill to organize ourselves and our community for success in this world and the next.
- Allahl Give unto those amongst us whom thou hast blessed with wealth, big hearts that they may extend help, to those who have the need of it for their education, social and cultural
- Almighty Allah! Let those who have been blessed by Thee with wisdom, share it with others for the benefit of humanity at large.
- Almighty Allah! Help us consolidate our efforts to create opportunities for those who have none.
- 8. Almighty Allah! Awaken in our hearts

the feeling that the children of the community are like our own children, the women like our own daughters and sisters and the males like our own brothers and guide us to wholcheartedly look after them all in meeting their needs.

- Almighty Allah! Help us help ourselves so that none of us ever remains deprived of basic education, genuine affinence and religious contentment.
- Almighty Allah! Help us by Thine
 Grace Abounding and Mercy Burnal
 to make our Community prosperous,
 enlightened, progressive, happy and
 contented and a bright example for
 others for all times to come.

(AMEEN)

How to Help the Poor People

o you want to be a helpful person and help the poor? This article will give you steps and ideas on how you can help make a difference in poor families life's. Helping the poor doesn't only refer to helping out homeless people but helping the low income families as well. You can use these tips below to teach your children how to be helpful around the holidays.

Instructions

I Boxes of food

Donate boxes of food that you no longer want. You can have food drives for the needy or physically take the food to the poor people that you would like to help. Some good choices of food to donate are canned foods, noodles, beans, and any other dried foods that will last a long time and don't need refrigerated.

2 Give Blankets

Give out blankets and sheets to the poor people. It is very sad to see a homeless person sleeping on the streets with no blankets. Helping them will make a big difference. You can also demate blankets and linens to thrift stores and good will.

3 Give Clother

Rummage through your clothes and your

children's old clothes and give them away. Donating clothes really does help the poor people. This will really make a difference to those in need of clothes. Winter clothes are really in need this time of year. Coats, scarfs, gloves and hats are also a great gift to give to the poor people.

4 Toys, Money, Books

Sort through your children's toys and donate them to the needy. Books of all types are also a recommended donation item to give to poor people. Giving charity such as money is a good thing to do if you have any to spare. Make sure you choose the right people or organization to donate to.

How to Deal With Difficult Relatives

ealing with difficult relatives can be, well just difficult. The main key is to stay calm. Most of the time, the relatives that are sending you round the wall, don't realize what they are doing. Look down at the floor and stay as calm as you can, if this nastiness goes on for weeks, on end, its time to step back. Do not under any circumstances fly off the handle and shout and be violent towards them. That will only bring you down to their level. The rest must come from inside of you. YOU can sort this out! Believe in yourself!

1 Define your boundaries. You set the boundaries in your relationships. If those boundaries are crossed and the other person can't seem to take the hint, you have to assert yourself to restore balance. If you have relatives who fail to respect your boundaries and behave as if the purpose of the relationship is for you to bend over backwards to satisfy all of their needs, you certainly aren't alone. What you need to do is define boundaries which you consider to be bottom lines that should not be crossed, ones that make you feel violated when they are. For example, if you value your privacy and a relative insists on frequent unannounced drop-in visits that may be a bottom line for you. A relationship that makes you feel violated isn't healthy.

2 Verbalize your boundaries. Use nonviolent communication (observation, feeling, need, request) the next time a relative oversteps boundaries. If you've been going years without clearly verbalizing and enforcing your boundaries like a mature (i.e. you've been letting the other person treat you like a child for too long), most likely the other person won't take you seriously at first. There may be a "shock" reaction (usually feigned) at the mere suggestion that you dare attempt to put restrictions on this behavior.

3 Enforce your boundaries. Try to enforce with kindness and commassion at first, after

with kindness and compassion at first - after all, there's a good chance you've allowed this behavior to go on for years, and that makes you partly to blame for the fact that your relative has not learned the behavior you want from him or her. But if that fails, and your relative doesn't respond to gentle reminders, here's a no-nonsense approach to enforcing your boundaries: Let the other person know that for the next 30 days, you intend to strictly enforce the boundaries you've described. Make it clear that if that person violates your boundaries even once during those 30 days, you will then begin a 30-day communications blackout. For 30 days you simply have no contact with the

other person. No drop-in visits (if s/he shows up, you firmly say, "Sorry, we just aren't ready for visitors right now. Also, we are not having contact with you at this time remember? That is to help you with our new rules."), no phone calls, no emails, nothing unless it's absolutely mandatory. After the 30day fasting period, you can restart the original 30-day boundary-enforcement trial and repeat the process. Of course you should let the other person know you're doing this be totally transparent about what you're doing. Also, let the other person know that you're resorting to this process because s/he's left you no choice. By taking a 30-day break, you hope to make a clean start, both understanding how to respect one another's boundaries.

4 Disarm the primary weapon: Guilt. If the other person attempts to use guilt as a tool of manipulation (which is extremely common), it's fairly easy to overcome. Whenever you perceive the other person attempting to manipulate your emotions by making you feel guilty, bring the whole matter to conscious awareness by asking, "You're not trying to make me feel guilty, are you?" The other person will probably deny it, but soon the pattern will re-emerge. Keep interrupting the pattern of falling into a state of guilt by bringing attention to the other person's emotionally manipulative tactics. Simply keep asking questions like, "Why do you feel it necessary to use guilt as a tool of manipulation?" or "You must really find this upsetting if you feel it necessary to try to make me feel guilty to get what you want. Can we try a more mature way of discussing this?" You don't need to beat the person up about it, but put a stop to the use of guilt as a weapon, once and for all. If you refuse to enter the emotional state of guilt, it will allow you to be more objective and compassionate in seeing that the other person is probably using guilt because s/he feels powerless. If you can address that powerlessness, you have the opportunity to transform the relationship for good.

5 Re-evaluate the relationship. If the person refuses to change, think deeply about your relationship with him or her. You might find that you harbor one or more beliefs that perpetuate the problem. If you operate under the belief that all family is forever and that you must remain loyal to all your relatives and spend lots of time with them, those beliefs are your choice, and you're free to embrace them - or release them. If you find yourself with family relationships that are incompatible with your becoming your

highest and best self, then excessive loyalty to your family is likely to be extremely disempowering to you. Think deeply about your own beliefs about family and loyalty and consider the following:

You can love your relatives without having a particularly close-knit relationship. Maybe your personal values and lifestyle have moved so far from theirs that there isn't enough basic compatibility to form a strong common bond anymore. Even though this might be the family you grew up with and shared many memories with, your core values are so different now that it just doesn't feel like a meaningful family relationship anymore. Despite all these differences, you can be on good terms with each other and get along fairly well, but your differences create such a big gap that you have to settle for being relatives without being close friends. Familial relationships can be complex, and cutting one person out can lead to your losing someone you really do want to have a closer relationship with. Decide which hills are really worth dying on, in other words, if you only have to see this difficult person two or three times a year, consider, just letting it roll off your shoulder. Although you want to be the captain of your own destiny, it won't hurt you to just endure this person for a few hours, and the trade-off is worth it if you are keeping your other relatives happy by doing


Tips

When you see this pattern occurring where you don't have the leverage to enforce boundaries, such as with your spouse's relative, and your partner seems spineless about having a confrontation, then you have to enforce these boundaries with your partner. You must clearly tell your partner to speak to his or her relatives, to defend you and your marriage/partnership, and to make it clear to his or her relatives that you must be respected, or else the two of you will not be visiting much. This has the benefit of pushing your partner to grow up (albeit sometimes kicking and screaming), learning to put your needs first and the "Mommy" figure's needs second. Some people just need a good kick to get themselves out of childhood and into adulthood, especially during their 20s.

Warnings

If your boundaries are reasonable, and the person is either unwilling or incapable of complying with them, you're done in most situations it would be foolish to continue such a relationship. It will only erode your self-respect.

MEMON ALAM . OCTOBER 2010



Memoni Jee Mahfil By: M. Aslam Saamla

MOTIYAN JEE MALA

3 cheezooN insaan ke zaleel karantiyuN

- Chori Chugli ne khoto bolnoo ne 3 maroo har waqt dukh meiN rehenta Haasid Kaahil - Wehmi,
- Waqt badal jay waqt maroo jee nazar bhi badli vinetee.
- Lagan ne etemaad insaan ke kaamyabi deenta.
- Aj key kaal tay na vijho kure laae ke kaal kadey nathi thiye.
- Har cheez jee zakat aae ne ghar jee zakat mehmaan-nawazi aae.
- Maafi badhay se saaro badlo aae.
- Kamzor te zulam badhay se waddo zulam aae.
- Jaday Marro khud potay ke sahi kari giney ta biyan ke bhi sahi kari sigheto.
- Charag jee roshni se faedo uparnu khapay ne hee na naro ke charag kinjay hath meiN aae.
- Insaan azeem natho thiye balkay unjo kirdaar unkay azeem banaeto.
- Dil jee badhay se vaddi beemari hasad aae.
- Insaaf karo bhalay panjay waray jay khilaaf he kure laac na voe.

DOLAT SE

- Dolat se araam waro bistar ta gini sigooN tae lekin nindar na.
- Dawa gini sighooN tae lekin sehan na.
- Saaro khainjo saman gini sighooN tae lekin bhuk na.
- KitabooN gini sighooN tae lekin ilm na. Qeemti libaas gini sighooN tae lekin khoobsoorti na.

- Himayat gini sighooN tae lekin khuloos na.
- Agar manzil tak pujhnu chahyo ta ta mayoos na thiyo.

- Usdaad gussay se: Agar tu aj ehtray deeN jay baad achi viye ta bataar kuro karnu pasand karnay?
- Shaagird: Sir gharey vinnu.
- Maa chokray ke puchee ke tu murgi key garam paani kure laae peeraeto? Chokro chui ta ke murgi ublelo ando diye.


SOGAAT-E-DERVESH

Muffat meiN koi cheez nathi miray. Koi man natho miray, koi hunar natho sikhi sighay, koi ilm haasil natho kari sighay, koi mashwaro natho diye, koi jaghay naae, koi ghar, na koi dukaan ne koi thikanu natho miray. Har cheez jay laae koi na koi geemat deeni khapeti. Venu, khenu, halmu phirnu, parhnu, likhnu, achnu vinnu badhay jay laae ki na ki deenu khapeto. Qeemat har cheez jee alag, har kam jee alag, har ghaal har fan, ne hunar jee dini khapeti. Qeemat jo andazo kadey vadhu ne kadey ocho lekin ki na ki deen jay bagair guzaro natho thiye, koi hali natho sighay, khoto, mohobbat, nafrat, dosti dushmani, har khuaish tay ne har zaroozat tay ki na ki deenu zaroor aae. Ida se uda vinanji geemat, hera pheri jee qeemat ne deen ginan jee qeemat.

Sharpen Your Life









pencil maker told the pencil 5 important lessons just before putting it in the box:

- 1.) Everything you do will always leave a mark.
- 2.) You can always correct the mistakes you make.
- 3.) What is important is what is inside of you.
- 4.) In life, you will undergo painful sharpenings, which will only make you
- 5.) To be the best pencil, you must allow yourself to be held and guided by the hand that holds you.

We all need to be constantly sharpened. This parable may encourage you to know that you are a special person, with unique God-given talents and abilities.

Only you can fulfill the purpose which you were born to accomplish. Never allow yourself to get discouraged and think that your life is insignificant and cannot be changed and, like the pencil, always remember that the most important part of who you are, is what's inside of you and then allow yourself to be guided by the hand of God.






3 decades of legacy 30,000 homes developed Global presence in 90 countries

Since 3 decades. Memor have established an enviable reputation for commitment and maximising investor returns. Our unique properties in Dubai offer an unparalleled investment opportunity to earn significant returns on your investment. Whether you choose to invest as an individual or as a syndicate, these properties from Memor Investments are certain to help you fulfil your aspirations. Invest in Memor as we are changing the landscape of Dubai by redefining development.



Murror Investments LLC

Toll Free 800 MEMON(63666)



Importance of Sleeping Sensible Advise

Silveping so late and waking up too late will disrupt the process of removing unnecessary chemicals. Aside from that, midnight to 4:00 am is the time when the bone marrow produces blood. Therefore, have a good sleep and don't sleep late.

Health - IMPORTANCE OF SLEEPING

Reasons for sleeping and waking up early; Evening at 9 - 11pm: is the time for eliminating unnecessary/toxic chemicals (detoxification) from the antibody system (lymph nodes). This time duration should be spent by relaxing or listening to music. If during this time a housewife is still in an unrelaxed state such as washing the dishes or monitoring children doing their homework, this will have a negative impact on health.

Evening at 11pm - 1am: is the detoxification process in the liver, and ideally should be done in a deep sleep state. Early morning 1 - 3am: detoxification process in the gall, also ideally done in a deep sleep state.

Early morning 3 - Sam: denoxification in the lungs. Therefore there will sometimes be a severe cough for cough sufferers during this time. Since the detoxification process had reached the respiratory tract, there is no need to take cough medicine so as not to interfere with toxin removal process.

Morning 5 - 7am: detoxification in the colon, you should empty your bowel.

Morning 7 - 9am: absorption of nutrients in the small intestine, you should be having breakfast at this time. Breakfast should be earlier, before 6:30am, for those who are sick. Breakfast before 7:30am is very beneficial to those wanting to stay fit. Those who always skip breakfast, they should change their habits, and it is still better to eat breakfast late until 9 - 10am rather than no meal at all.

Sleeping so late and waking up too late will disrupt the process of removing unnecessary chemicals. Aside from that, midnight to 4:00 am is the time when the bone marrow produces blood. Therefore, have a good sleep and don't sleep late.

TAKE CARE ABOUT YOUR HEALTH Live Life Without Limits!

The top five cancer-causing foods are: 1. Hot dogs

Because they are high in nitrates, the Cancer Prevention Coalition advises that children eat no more than 12 hot dogs a month. If you can't live without hot dogs, buy those made without sodium nitrate.

MEMON ALAM . OCTOBER 2010



2. Processed means and bacon

Also high in the same sodium nitrates found in hot dogs, becon, and other processed means raise the risk of heart disease. The saturated fat in becon also contributes to cancer.

3. Doughauta

Doughnuts are cancer-causing double trouble. First, they are made with white flour, sugar, and hydrogenated cils, then fried at high temperatures. Doughnuts, may be the worst food you can possibly eat to raise your risk of cancer.

4. French Fries

Like doughmuts, French fries are made with hydrogenated oils and then fried at high temperatures. They also contain cancercausing acryl amides which occur during the frying process. They should be called cancer fries, not French fries.

5. Chips, crackers, and cookles

All are usually made with white flour and sugar. Even the ones whose labels claim to be free of trans-fats generally contain small amounts of trans-fats.

BRAIN DAMAGING HABITS

1. No Brenkfast

People who do not take breakfast are going to have a lower blood sugar level. This leads to an insufficient supply of nutrients to the brain causing brain degeneration.

2. Overeating

It causes hardening of the brain arteries, leading to a decrease in mental power.

3. Smoking

It causes amiltiple brain shrinkage and may lead to Alzheimer disease.

4. High Sugar communicion

Too much sugar will interrupt the absorption of proteins and nutrients causing malnutrition and may interfere with brain development.

5. Air Polintion

The brain is the largest oxygen consumer in

our body. Inhaling polluted air decreases the supply of oxygen to the brain, bringing about a decrease in brain efficiency.

6. Sleep Deprivation

Sieep allows our brain to rest. Long term deprivation from sleep will accelerate the death of brain cells.

7. Head covered while sleeping

Sleeping with the head covered increases the concentration of carbon dioxide and decrease concentration of oxygen that may lead to brain damaging

effects.

8. Working your brain during illness

Working hard or studying with sickness may lead to a decresse in effectiveness of the brain as well as damage the brain.

9. Lacking in stimulating thoughts

Thinking is the best way to train our brain, lacking in brain stimulation thoughts may cause brain shrinkage.

10. Talking Rarely

Intellectual conversations will promote the efficiency of the brain

The main causes of liver damage are:

- Sleeping too late and waking up too late are main cause.
- 2. Not urinating in the morning.
- 3. Too much eating.
- Skipping breakfast.
- Consuming too medication & alcohol
- Consuming too much preservatives, additives, food coloring, and artificial sweetener.
- Consuming unhealthy cooking oil. As much as possible reduce cooking oil use when frying, which includes even the best cooking oils like olive oil. Do not consume fried foods when you are tired, except if the body is very fit.
- Consuming raw (overly done) foods also add to the burden of liver.

Veggies should be eaten raw or cooked 3-5 parts. Fried veggies should be finished in one sitting, do not store.

We should prevent this without necessarily spending more. We just have to adopt a good daily lifestyle and eating habits. Maintaining good eating habits and time condition are very important for our bodies to absorb and get rid of unnecessary chemicals according to "schedule."

DO TAKE CARE ABOUT YOUR HEALTH...... SAFETY FIRST!!!

LIGHTER MOMENTS STAY ALERT!

IDIOT SIGHTING NO. 1

My daughter and I went through the McDonald's take-out window and I gave the clerk a £5 note. Our total was £4.20, so I also handed her a 20 pence piece. She said, 'You gave me too much money.'
I said, 'Yes I know, but this way you can just give me £1 back.'

She sighed and went to get the Manager who asked me to repeat my request. I did so, and he handed me back the 20 pence and said 'We're sorry but we do not do that kind of thing,'

The clerk then proceeded to give me back 80 pence in change.

IDIOT SIGHTING NO. 2

We had to have the garage door repaired. The GARADOR repairman told us that one of our problems was that we did not have a 'large' enough motor on the opener. I thought for a moment, and said that we had the largest one GARADOR made at that time, a 1/2 horsepower. He shook his head and said, 'Lady, you need a 1/4 horsepower.'

I responded that 1/2 was larger than 1/4 and he said, 'NOOO, it's not. Four is larger

than two '

We haven't used Garagedoor repair since.

IDIOT SIGHTING NO. 3

I live in a semi-rural area. We recently had a new neighbour call the Highways Department to request the removal of the 'DEER CROSSING' sign on our road. The reason: 'Too many deer are being hit by cars on this stretch of road! I don't think this is a good place for them to be crossing anymore.'

IDIOT SIGHTING NO. 4

My daughter went to a local Kentucky Fried Chicken and ordered a Taco. She asked the person behind the counter for 'minimal lettuce.'

He said he was sorry, but they only had Iceberg Lettuce.

IDIOT SIGHTING NO. 5

I was at the airport, checking in at the gate when an airport employee asked, 'Has anyone put anything in your baggage without your knowledge?'
To which I replied, 'If it was without my knowledge, how would I know?'

He smiled knowingly and nodded, 'That's why we ask.'

IDIOT SIGHTING NO. 6

The traffic light on the corner buzzes when it's on red and safe to cross the road. I was crossing with an intellectually challenged friend of mine.

She asked if I knew what the buzzer was for. I explained that it signals blind people when the light is red.

Appalled, she responded, 'What on earth are blind people doing driving?!'

IDIOT SIGHTING NO. 7

When my husband and I arrived at our local Ford dealer to pick up our Car, we were told the keys had been locked in it. We went to the Service Department and found a mechanic working feverishly to unlock the Driver's door.

As I watched from the passenger side, I instinctively tried the door Handle and discovered that it was unlocked.

'they,' I announced to the Fitter/Mechanic, 'its open!'

His reply: 'I know. I already did that side.'

ENJOY

- 1 . If time doesn't wait for you, don't worry! Just remove the damn battery from the clock and Enjoy life!
- 2. Expecting the world to treat u fairly $coz\ u$ r a good person is like expecting the lion not to attack u $coz\ u$ r a vegetarian . Think about it
- 3. Beauty isn't measured by outer appearance and what clothes we wear, but what we are inside. So, try going out naked tomorrow and see the Admiration!
- 4. Don't walk as if you rule the world, walk as if you don't care who rules the world!

That's called Attitude . Keep on rocking!

- 5. Every lady hopes that her daughter will marry a better man than she did and is convinced that her son will never find a wife as good as his father did!!!
- 6. He was a good man .. He never smoked, drank had no affair . When he died, the insurance company refused the claim . They said, he who never lived, cannot die!
- 7. A man threw his wife in a pond of Crocodiles. He's now being harassed by the Animal Rights Activists for being cruel to the Crocodiles!
- 8 . So many options for suicide: Poison, sleeping pills, hanging, jumping from a building, lying on train tracks, but we chose Marriage, slow but sure!
- 9. Only 20 percent boys have brains, rest has girlfriends!
- 10 . All desirable things in life are either illegal, banned, expensive or Married to someone else!
- 11.10% of road accidents are due to drunken driving. This makes it a logical statement that 90% of accidents are due to driving without drinking!

HAPPY MARRIED LIFE

Once Mathai asked Kuttappan, "What is the secret behind your happy married life"? Kuttappan said, "You should share responsibilities with due love and respect to each other. Then absolutely there will be no problems."

"Can you explain?" asked Mathais Kuttapan said, "In my house, I take decisions on bigger issues where as my wife decides on smaller issues. We do not interfere in each other's decisions." Still not convinced, Mathai asked Kuttappan "Give me some examples" Kuttappan said, "Smaller issues like which car we should buy, how much amount to save, when to visit home town, which sofa, air conditioner, refrigerator to buy, monthly expenses, whether to keep a maid or not etc. are decided by my wife. I just agree to it"


Mahai asked "Then what is your role"? Kuttappan said, "My decisions are only for very big issues.....

Like whether America should attack Iraq, whether Britain should lift sanction over Zimbabwe, how to widen African economy, whether Sachin Tendulkar should retire etc.

Do you know one thing, my wife NEVER objects to any of these".

That is the secret of my happy married

BEST ADVICE EVER!!!!!!!!



Eight clues to happiness



he rationale applied to each preference is absolutely top class. Having lived a reasonably contented life, I was musing over what a person should strive for to achieve happiness. I drew up a list of a few essentials which I put forward for the readers' appraisal.

First and foremost is GOOD
HEALTH. If you do not enjoy good health you can never be happy. Any ailment, however trivial, will deduct from your happiness.

A HEALTHY BANK BALANCE. It need not run into crores but should be enough to provide for creature comforts and something to spare for recreation, like eating out, going to the pictures, traveling or going on holidays on the hills or by the sea. Shortage of money can be only demoralizing. Living on credit or borrowing is demeaning and lowers one in one's own eyes.

3 HOME OF YOUR OWN. Rented premises can never give you the snug feeling of a nest which is yours for keeps that a home provides: if it has a garden space, all the better. Plant your own trees and flowers, see them grow and blossom, cultivate a sense of kinship with them.

AN UNDERSTANDING
COMPANION, be it your spouse
or a friend. If there are too many
misunderstandings, they will rob you of
your peace of mind. It is better to be
divorced than to bicker all the time.

5 LACK OF ENVY towards those who have done better than you in life; risen higher, made more money, or earned more fame. Envy can be very corroding; avoid comparing yourself with others.

PEOPLE to descend on you for gupshup. By the time you get rid of them, you will feel exhausted and poisoned by their gossip-mongering.

can bring you a sense of fulfilment, such as gardening, reading, writing, painting, playing or listening to music. Going to clubs or parties to get free drinks or to meet celebrities is criminal waste of time.

Every morning and evening, devote 15 minutes to INTROSPECTION. In the morning, 10 minutes should be spent on stilling the mind and then five in listing things you have to do that day. In the evening, five minutes to still the mind again, and ten to go over what you had undertaken to do. RICHNESS is not Earning More, Spending More Or Saving More, but... "RICHNESS IS WHEN YOU NEED NO MORE"

MEMON ALAM . OCTOBER 2010



Historic Book Tarikh-e-Pakistan ke Gumshuda Auraaq






he World Memon Organisation (WMO) launched the book, Tarikhe-Pakistan ke Gumshuda Auraaq, a historic book written by Professor Abdul Aziz Markatia. The launching ceremony was held on Friday, 15th October 2010 at the Arts Council of Pakistan. Syed Qassim Pirzada, Vice Chancellor of the University of Karachi was the Chief Guest. Haji Abdul Razzak Yaqoob (ARY), President of the World Memon Organisation (WMO), presided over the ceremony. The program was attended by members of WMO Pakistan Chapter and many dignitaries from the literary field. The program started with recitation of a few verses from the Holy Quran and recitation of Naat-e-Rasool-e-Maqbool. Mr. Shoaib Ismail Mangroria, Vice President, briefly highlighted the activities of WMO and commended the

research work done by Prof. Abdul Aziz Markatia. Mr. Faisal Adhi, son of the renowned Mr. Abdul Sattar Edhi, social worker, told that this book was on history of Memon Community and their contribution to the creation of Pakistan and thereafter. Mr. Pir Muhammad A. Kaliya, Secretary General, WMO, also highlighted the work of WMO at the international level. He stressed the importance of preserving the history of the Memon Community for posterity. Haji Abdul Razzak Yaqoob, President of WMO, in his speech said that the Memon Community had contributed greatly for the cause of Pakistan, both before its creation and in its growth and development. He said the Memons were playing an outstanding and key role in various fields including business, commerce, industry, education, healthcare, etc in Pakistan. He explained the

international role which the World Memon Organisation (WMO) was playing, being the umbrella organization and single platform of the Memon Community worldwide. Thereafter, Prof. Abdul Aziz Markatia, highlighted the contents of the book. After which, Syed Qassim Pirzada, Vice Chancellor, University of Karachi, said a few words. He said that this research work, consisting of 7 volumes, may be considered as one of the largest research work in Pakistan. He said that the Memons had supported the creation of Pakistan in the pre-independent era and made huge sacrifices for Pakistan.

In the end, Mr. H.M. Shahzad, Assistant Secretary General, WMO, expressed vote of thanks. Thereafter, the launching ceremony concluded with dinner.





Allah's Pharmacy!!!

The pharmacy of Allah is found within nature itself! "Allah is All-Knowing All-Wise"...Quran



A sliced Carrot looks like the human eye. The pupil, iris and radiating lines look just like the human eye...and YRS ectence now shows that carrots greatly enhance blood flow to and function of the eyes.



A Tomato has four chambers and is red. The heart is red and has four chambers. All of the research shows tomatoes are indeed pure heart and blood food.



Grapes hang in a cluster that has the shape of the heart. Buch grape looks like a blood cell and all of the research today shows that grapes are also profound heart and blood vitalizing food.



A Walnut looks like a little brain, a left and right hemisphere, upper cerebrums and lower cerebelliums. Even the wrinkles or folds are on the nut just like the neo-outex. We now know that walnuts help develop over 3 dozen neurostransmitters for brain function.

MEMON ALAM . OCTOBER 2010



KIDNEY BEANS

Kidney Beans actually heal and help maintain kidney function and yes, they look exactly like the human kidneys.



Ceiery, Bok Choy, Rhuberb and more look just like bones. These foods specifically target bone strength. Bones are 23% sodium and these foods are 23% sodium. If you don't have enough sodium in your diet the body pulls it from the bones, making them weak. These foods replenish the skeletal needs of the body.



Eggplent, Associates and Peans target the health and function of the womb and curvix of the famile - they look just like these organs. Today's senseth shows that when a woman ents I swoode a week, it believes homeous, sheds unwanted birth weight and prevents cervical cancers. And how profound is this? ... It takes exactly 9 months to grow an associate from blomest to ripened fruit. There are over 14,000 photolytic chemical constituents of natrition in each one of these fineds (modern science has only studied and named about 141 of them).



Pigs are full of seeds and hang in two

when they grow. Figs increase the motility of male system and increase the numbers of Sperm cells to overcome male statility.



CHANGES

Grapeliuits, Oranges, and other Citrus fruits look just like the mammary glands of the female and actually assist the health of the breasts and the movement of lymph in and out of the breasts.



Onions look like body cells. Today's research shows that onions help clear waste materials from all of the body cells. They even produce tears which wash the epithelial layers of the eyes.



SWEET POTATOES

Sweet Pointoes look like the pancress and actually balance the glycemic index of diabetics.



Olives units the health and function of the crucies.

Then which of the favours of your Allah will pe dany? - [Queun 55:13]



Retrieving Life...

COLDS

Mix a gram of dalchini/cinnamon powder with a teaspoon of honey to cure cold. Prepare a cup of tea to which you should add ginger, clove, bay leaf and black pepper. This should be consumed twice a day. Reduce the intake as the cold disappears.



GINGER FOR COLDS.

Ginger tea is very good to cure cold. Preparation of tea: out ginger into small pieces and boil it with water, boil it a few times and then add sugar to sweeten and milk to taste, and drink it hot.



DRY COUGHS.

Add a gram of turmeric (haldi) powder to a teaspoon of honey for curing dry cough. Also chew a cardamom for a long time.



BLOCKED NOSE,

For blocked nose or to relieve congestion, take a table spoon of crushed carorn seeds (sjwain) and tie it in a cloth and inhale it.



SORE THROAT.

Add a ten spoon of currin seeds (jeera) and a few small pieces of dry ginger to a glass of boiling water. Simmer it fur a few minutes, and then let it cool. Drink it twice daily. This will cure cold as well as sore throat.



AJWAIN/AJMO FOR ASTHMA.

Boil ajwain in water and inhale the steam.

CURE FOR BACKACHE.

Rub ginger paste on the backuche to get

GARLIC FOR HIGH BLOOD PRESSURE.

Have 1-2 pod garlic (lasan) first thing in the morning with water



INJURIES

For any cut or wound, apply turmeric powder to the injured portion to stop the bleeding. It also works as an antiseptic. You can tie a bandage after applying haldi/turmeric.

MEMON ALAM . OCTOBER 2010

HEALTH CORNER



CRAMPS

You must do a self-manage using mustard oil every morning. Just take a little oil between your palms and rub it all over your body. Then take a shower. This is especially beneficial during winter. You could also mix a little mustard powder with water to make a paste and apply this on your palms and soles of your feet.



HEADACHES.

If you have a regular migraine problem, include five almonds along with hot milk in your daily diet. You could also have a gram of black pepper along with honey or milk, twice or thrice a day. Make an almond paste by rubbing wet almonds against a stone. This can be applied to forehead. Eas an apple with a little sult on an empty stomach everyday and see its wonderful effects. OR When headache is caused by cold winds, cinnamon, works best in curing headache. Make a paste of cinnamon by mixing in water and apply it all over your forehead.



TURMERIC FOR ARTHRITIS.

Turmeric can be used in treating arthritis due to its anti-inflammatory property. Turmeric can be taken as a drink other than adding to dishes to help prevent all problems. Use one teaspoon of turmeric powder per cup of warm milk every day. It is also used as a paste for local action.

GOOD POR THE HEART

Turmeric lower cholesterol and by preventing the formation of the internal blood clots improves circulation and prevents heart disease and stroke. Turmeric can be taken as a drink other than adding to dishes to help prevent all problems. Use one teaspoon of turmeric powder per cup of warm milk every day. It is also used as a paste for local action.

GOOD POR INDIGESTION

Turmeric can be used to relieve digestive problems like ulcers, dysentery. Turmeric can be taken as a drink other than adding to dishes to help prevent all problems. Use one teaspoon of turmeric powder per cup of warm milk every day. It is also used as a paste for local action.

HONEY IS A GOOD CURE FOR ALL DISEASES

Mix I teaspoon honey with I teaspoon cinnamon powder and have at night.



HICCUP

Take a warm elice of lemon and sprinkle salt, sugar and black pepper on it. The lemon should be eaten until the hiccups stop.

HIGH RLOOD CHOLESTEROL

In 1 glass of water, add 2 theps of coriander/dhamis seeds and bring to a boil. Let the decoction cool for some time and then strain. Drink this mixture two times in a day. OR Sunflower seeds are extremely beneficial, as they contain linoleic acid that helps in reducing the cholesterol deposits on the walls of arteries.

PUT TO

Radish juice should be taken twice a day, once in the morning and then later in the night. Initially drink about? cup of radish juice and then gradually increase it to? cup. OR Soak 3-4 figs in a glass of water Keep it overnight. Consume the figs on an empty stomach, the next day in the morning.

VOMPTING

Take 2 cardamons/elachi and roast them on a dry pan (tava). Powder the cardamoms and thereafter add a tsp of honey in it. Consume it frequently. It serves as a fabulous home remedy for vomiting. OR In the mixture of 1 tsp of mint juice and 1 tsp limejuice, add? top of ginger juice and I tso honey. Drink this mixture to prevent vomiting. OR. Limeluice is an effective remedy for womiting. Take a glass of chilled timejuice and sip slowly. To prevent vomiting, drink ginger tea. OR In I glass water, add some honey and drink sip by sip.

WART

Apply castor oil daily over the problematic area. Cominue for several months. OR Apply milky juice of fresh and barely-ripe figs a number of times a day. Continue for two weeks. OR Rub out raw potatoes on the affected area several times daily. Continue for at least two weeks. OR Rub out onions on the warts to atimulate the circulation of blood. OR Apply milk from the out end of dandelion over the warts 2-3 times a day. OR Apply oil extracted from the shell of the cashew mut over the warts. OR Apply Papaya juice OR Apply Pineapple juice.

URINARY TRACT INFECTION

In 8 oz of water, put? tsp of haking soda and drink it. OR Drink plenty of water, as it aids in flushing our the waste products from the body. OR Drink Cramberry juice. You can also add some apple juice for taste.

SINUSITIE

Mango serves as an effective home remedy for preventing the frequent attacks of sims, as it is packed with loads of vitamin A. OR Another beneficial remedy consists of consuming pungent foods like onion and garlic, as a part of your daily meals. OR Ferugreck/methi leaves are considered valuable.



Miracle drink carrot, potato and apple

his MIRACLE DRINK has been circulating for a long time long ago. It is worth your while to take note. There is a celebrity Mr. Seto who swears by it. He wants to make it public to draw the attention of people who have cancers. This is a drink that can protect bad cells forming in your body or it will restrain its growth! Mr. Seto had lung cancer. He was recommended to take this drink by a famous Herbalist from China. He has taken this drink diligently for 3 months and now his health is restored, and he is ready to take a pleasure trip. Thanks to this drink! It does not hurt for you to try.

It is like a Miracle Drink! It is simple. You need one potato, one carrot and one apple that combine together to make the JUICE!

Wash the above, cut with the skin on into pieces and put them into the juicer and immediately you drink the juice. You can add some lime or lemon for more refreshing taste

This Miracle Drink will be effective for the following ailments:

- Prevent cancer cells to develop. It will restrain cancer cells to grow.
- Prevent liver, kidney, pancreas disease and it can cure ulcer as well.
- Strengthen the lung; prevent heart attack and high blood pressure.
- Strengthen the immune system
- Good for the eyesight, eliminate red and tired eyes or dry eyes
- Help to eliminate pain from physical training, muscle ache
- Detoxify, assist bowel movement, and eliminate constipation. Therefore it will make skin healthy & LOOK more radiant. It is God sent for acne problem.

- Improve bad breath due to indigestion, throat infection,
- 9. Lessen menstrual pain
- Assist Hay Fever Sufferer from Hay Fever attack.

There is absolutely no side effect. Highly nutritious and easily absorbs! Very effective if you need to loose weight. You will notice your immune system will be improved after 2 week routine. Please make sure to drink immediately from the juicer for best effect.

When to drink it;

Drink it first thing in the morning with the empty stomach! After one hour you can eat breakfast. For fast results drink 2 times a day, in the morning and before 5 p.m.

You will never regret! It does not cost you much money! Please circulate to your family and friends.

A True Story....

woman baked chapatti for members of her family and an extra one for a hungry passerby. She kept the extra chapatti on the window sill, for whosoever would take it away. Every day, a hunchback came and took away the chapatti. Instead of expressing gratitude, he muttered the following words as he went his way: "The evil you do remains with you: The good you do, comes back to you!" This went on, day after day. Every day, the hunchback came, picked up the chapatti and uttered the words: "The evil you do, remains with you: The good you do, comes back to you!" The woman felt irritated. "Not a word of gratitude," she said to herself...

"Everyday this hunchback utters this jingle! What does he mean?" One day, exasperated, she decided to do away with him. "I shall get rid of this hunchback," she said. And what did she do? She added poison to the chapatti she prepared for him! As she was about to keep it on the window sill, her hands trembled. "What is this I am doing?" she said. Immediately, she threw

the chapatti into the fire, prepared another one and kept it on the window sill. As usual, the hunchback came, picked up the chapatti and muttered the words: "The evil you do, remains with you: The good you do, comes back to you!" The hunchback proceeded on his way, blissfully unaware of the war raging in the mind of the woman.


Every day, as the woman placed the chapatti on the window sill, she offered a prayer for her son who had gone to a distant place to seek his fortune. For many months, she had no news of him.. She prayed for his safe return. That evening, there was a knock on the door. As she opened it, she was surprised to find her son standing in the doorway. He had grown thin and lean. His garments were tattered and torn. He was hungry, starved and weak. As he saw his mother, he said, "Mom, it's a miracle I'm here. While I was but a mile away, I was so famished that I collapsed. I would have died, but just then an old hunchback passed by. I begged of him for a morsel of food, and he was kind enough to give me a whole chapatti. As he gave it to

me, he said, "This is what I eat everyday: today, I shall give it to you, for your need is greater than mine!" " As the mother heard those words, her face turned pale.

She leaned against the door for support. She remembered the poisoned chapatti that she had made that morning. Had she not burnt it in the fire, it would have been eaten by her own son, and he would have lost his life! It was then that she realized the significance of the words: "The evil you do remains with you: The good you do, comes back to you!"

Do good and Don't ever stop doing good, even if it's not appreciated at that time.

Is this story true or fiction? This is not important but the message it delivers is very powerful. I have always believed that "if you do something good, never expect anything in return, not even a word of appreciation. So if you don't get anything in return, you will not be disappointed but if you do then you will be pleasantly surprised" but hey this is me





MITI is now affiliated with City & Guilds International

Al Hamdulillah, we are delighted to inform you that the City & Guilds International has approved the Memon Industrial & Technical Institute (MITI) as a City & Guilds International Center. The City & Guilds International, which is incorporated by Royal Charter, 1878, has as its President, HRH Prince Duke of Edinburgh. The City & Guilds is globally recognized with a presence in

more than 100 countries and offers over 300 technical and professional courses. As such, the status of the MITI has been elevated to international standards.

Condolence

With profound sorrow and deep regrets we have learnt of sad demise of Haji Abdul Rahman (Popularly known as Haji (Pe) who passed away in South Africa of Monday 1st November 2010. He was brother of Haji Muhammad Feroz Bhaa.

To Allah we belong and to Him is our return.

We express our heartfelt condolences to the friends, associates and members of the deceased family.

We make dua's that may Allah Subhanahu rest the departed soul in eternal peace, forgive his short comings, have mercy on him and bless him a place in Januatul Firdous Aameen!

Pakistan Chemicals & Dyes Merchants Association

Mr. Muhammad Haroon Agar has been elected as Chairman of the Pakistan Chemicals & Dyes Merchants Association.

Karachi Cotton Association's new office-bearers

Mr. Mohammad Atif Dada has been elected unopposed as Chairman of the Karachi Cotton Association

TAAP Office-bearers for 2010-11

Election results of the Travel Agents Association of Pakistan (TAAP) for the year 2010-11 was announced in the 33rd Annual General Body Meeting held on Sept 30, 2010, at Karachi Club Annexe. Mr. M. Yahya Polani was elected as Chairman of TAAP.


Chicago Memon Association

Mr. Farooq Sardharia, President of Chicago Memon Association will be relinquishing his office as President of Chicago Memon Association on December 31, 2010. A meeting was held at Grill and Kabob restaurant in Glendale Heights on November 2, 2010 at 10:00 pm to select the new President of Chicago Memon Association. According to tradition the Vice President should become President, however, if he does not accept the nomination then a free election is held or a selection of a well known community member is made to take the responsibility for the next one year term. The current Vice President Abdul Waheed Karim Jangda refused to accept the nomination for President's position due to his business commitment, therefore, it was decided amongst all present at the meeting to ask Imran Aziz to become the President. Effective November 3, 2010, Mr. Imran Aziz became the new Honorable President of Chicago Memon Association.

ACCA High Achievers Ceremony 2010

Mr. Shehryar Hamidani s/o Sohail Hamidani, acquired first rank in CAT T3 INT paper Maintaining Financial Records, nationally in June 2010 Exam Session.

- Completed O' Level in Jun'08 session with overall 6 A's and 4 B's
- Qualified CAT examination, 9 papers in two sessions Dec'09 and Jun'10, with an overall percentage of 88.3 and scored highest marks in Pakistan by obtaining 98 out of 100 marks in CAT paper T3 (INT)-Maintaining Financial Records.
- Simultaneously doing A' Level (private) and ACCA (regular)
- He was getting scholarship from World Memon Organisation



Memon community in the U.A.E





emon Community in UAE celebrated EID-ul-FTIR get together on Friday 1st October 2010 combined with the 12th Annual Prize Distribution Event. The event was organized at the premises of His Highness Sheikh Rashid Al Maktoum Pakistan School. A large gathering of children and their families were present at the occasion and those children who excelled in the final examination during the academic year 2009/2010 were all felicitated, while their parents and families also had the excellent opportunity of interaction with each other exchanging greetings and sharing news and views. Mr. Aboobaker Cassim Senior Vice

President of the Community presided over the event. Several senior and other leading members of the community were present at the event. In his brief address Mr. Aboobaker Cassim welcomed the members of the Community who attended the event in large number. He extended Eid Mubarak to all attendees and congratulated students on their success in examination this year. He lauded the hard work put in by the Organising Committee members and expressed his thanks to those members who continue to extend support with their contributions and good wishes.

Earlier Mt. Abdul Ghaffar Fancy, General

Secretary welcomed the guests, members of the community and children who were present at the event. He expressed his thanks to all for their continued support, encouragement and cooperation.

Members of the community present expressed their pleasure and appreciation for organizing the event that provided them platform for interaction, extending each other greetings and exchanging views and news. Condolences and Dua'a were offered on sad demise of certain community members. Victims of the recent devastating floods in Pakistan were also remembered and Dua'a offered. The venue gave an impressive and festive look.

MPF Elections (Pakistan)

Memon Professional Forum Elections for the period 2010-2011 were held on Sunday 3rd October 2010. Mr. Yaqoob Kapadia, Advocate, announced the results of the successful candidates as unopposed:



President Mr. Asif Ismail Mangroria



Senior Vice President Mr. Khalid Bhamba



Vice President Ms. Farzana Munaf



Secretary General Mr. Faraz Yunus Bandookda



Joint Secretary Mr. Jawad Sheikha



Treasurer

Aba Ali

Mr. Junaid

Upleta Memon Jamaat (Mumbai) Annual Meeting held on 17 Oct 2010 at Kesar Baug, Mumbai, India.

Mr Iqbal Memon officer VP all India Memon Jamaat Fed is felicitating by trophy presentation to guest of honour Prof. Sajjad VP AIMJF along with Mr Majeed Biba (Jalgoan). Also seen in picture chief guest Mr A C Saleem Arfa, Asst. Secretary General WMO Far East and Secretary General Srilankan Chapter.





Memon Industrial & Technical Institute

Come.....join us for your bright future!

MITI, a place of international quality vocational training, has been established under the auspices of World Memon Organization. Its prime objective is to train people of less-privileged class, enabling them to earn their livelihood with peace and dignity, and to prosper.

Courses for Women

Vocational Courses

Fine Art
English Language
Textile Designing
Sewing & Cutting
Cooking & Baking
Fancy Embroidery
Interior Decoration
Hand
&
Machine Embroidery
Personal Grooming
&
Makeup
Technical Courses

AutoCad
UPS Repairing
Microsoft Office
Mobile Repairing
Web Development
Computer Hardware
Computer Graphics

& Illustration

















Courses for Men

English Language
Computer Hardware
Generator operator
Industrial Electrician
Domestic Electrician
Mobile Phone Repairing
Refrigeration Air condition

Carpenter
Motor rewinding
Lift Technician
Auto Electrician
Auto Air-condition
Plumbing
Auto Mechenic
Aluminium Craftman
Home UPS repairing
&
installation
CNG kit installation
&
Tuning
Gas/Electric Welding

Tig/CO: Advance course

MITI Plot # ST- 1/8, Sector 36-I, (Civic Center-3) Korangi -5, Karachi - Pakistan, Tel: 021-35035542/43/45/46 Fax: 021-35035547, eMail: mgmt@wmomiti.com, web: (www.wmomiti.com)



મેમણ આલમ _(WMO)

ગુજરાતી વિભાગ સંપાદકઃ ઉમર અ. રહેમાન ખાનાણી



તંત્રીસ્થાનેથી..


हिहरती आहपामां मुमहाया भिभिहा

મેમણ બિરાદરી દાન-પ્રવૃત્તિ માટે તો પંકાચેલી છે જ, કુદરતી આપતિના સંજોગોમાં પણ તેની ભૂમિકા કાંઈ નાની-સૂની રહી નથી. ઈતિહાસના પાના ઉથલાવતાં જણાઈ આવશે કે એવા દરેક સમચે અસરગ્રસ્તોની મદદ કરવામાં મેમણો કિંમતી ફાળો આપતા રહ્યા છે, પછી એ બિહારનો ભચાનક ભૂકંપ (૧૫ જાન્યુઆરી ૧૯૩૪) હોય કે કવેટાનો ખોફનાક ધરતીકંપ (૧૩ મે ૧૯૩૫) હોય, પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં પૂરના વિનાશક રેલાં (૧૨ નવેમ્બર ૧૯૭૦) હોય કે ગુજરાત-કચ્છને કંપાવી ગયેલા ભયંકર આંચકા (૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૦૧)ની અથવા હિન્દ મહાસાગરના કિનારા પ્રદેશમાં વિનાશક તબાહી ફેલાવી ગયેલા તોફાની ઝંઝાવાત સુનામી (૨૬ ડિસેમ્બર ૨૦૦૪)ની આપત્તિ હોય.

પાકિસ્તાનના ઉત્તરી ભાગોમાં ભૂકંપના તિવ્ર આંચકાઓએ વિનાશ સર્જયો ત્યારે અને હવે પૂરા પાકિસ્તાનમાં ફેલાઈ ગયેલા વ્યાપક પૂર (જુલાઈ-૨૦૧૦) વખતે મેમણો અસરગ્રસ્ત પરિવારોની મદદે ધાવા દોડી ગયા હતા. તુર્કી, કલકત્તા અને કાશ્મીરમાં પણ ધરતીકંપે તબાહી મચાવી ત્યારે મેમણ બિરાદરીએ બનતી સહાય પૂરી પાડી હતી.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે બ્રિટીશ સામ્રાજયકાળમાં બીહારમાં તેમજ કવેટામાં ધરતિકંપે તારાજી સર્જી ત્યારે મેમણ રીલીફ કમિટિના નેજા હેઠળ કંપપીડીતોની અથાગ સેવા અને મદદ કરવા બદલ અ. સત્તાર હાજી સુલેમાન નવીવાલાનું એ વખતના ભારત ખાતેના બ્રિટીશ વાઈસરોચે 'કેશરે-હિન્દ'ના ખિતાબથી નવાજીને બહુમાન કર્યું હતું. પાકિસ્તાનમાં પણ ૧૯૭૦માં દેશની પૂર્વ પાંખમાં પૂર ઉમટયા ત્યારે અસરગ્રસ્તોની રાત-દિન મદદ કરનાર ઉસ્માન સુલેમાનની સરકારી ધોરણે કદર કરીને તેમને "સિતારા-એ-ખિદમત"નો ઈલ્કાબ એનાયત કરાયો હતો. બ્રિટીશરો સહિતની સરકારો તરફથી આવી ખંડણી મેમણોના રાહતકામની સ્વીકૃતિના બોલતા પુરાવા છે.

પેટાખંડના ભાગલા પડ્યા ત્યારે ભારતી મુસલમાનોએ હજારોની સંખ્યામાં એકી સાથે પાકિસ્તાન તરફ હિજરત શરૂ કરી દીધી હતી. પરિણામે દરબદર થયેલા મુહાજીરોના ઘસારાએ પાકિસ્તાનમાં વિષમ પરિસ્થિતિ સર્જી હતી. મોટાભાગના બેઘર મુસલમાનોના ખિસ્સાં સાવ ખાલી હોવાથી ગુજરાન ચલાવવું અશક્ય થઈ પડ્યું હતું. આવા તાકીદના સંજોગોમાં મેમણો મદદ કરવા આગળ આવ્યા હતા અને મેમણ રીલીફ કમિટીના નેજા હેઠળ રાહતકામ શરૂ કર્યું હતું. ભારતમાં પોરબંદર, મુંબઈ તથા ઓખામાં અને પાકિસ્તાનમાં કરાચી તથા ખોખરાપાર મુકામે રાહત છાવણીઓ ઊભી કરીને માત્ર મેમણોને જ નહીં બલ્કે તમામ નિરાશ્રીતોને ભેદભાવ વગર આશ્રય, ખોરાક, દવાઓ અને ટ્રાન્સપોર્ટની સગવડો



કરી આપી હતી.

વખત જતાં મેમણોની સેવા પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો થતો રહ્યો છે. છેલ્લા પાંચ દાચકાઓમાં બિરાદરીના કમનસીબ કુટુંબોની ભલાઈ અને મદદ માટે શકય પ્રયાસો કરાતા રહ્યા છે. જો કે મોટે ભાગે આવી પ્રવૃત્તિઓ જમાતો અને બીજી મેમણ સંસ્થાઓની કાર્યંશક્તિ મુજબ ચોક્કસ વિસ્તારો સુધી સીમીત રહી છે. સમસ્ત મેમણ બિરાદરીને એક જ છત્રછાયા હેઠળ એકઠા કરવા માટે સમાન આંતરરાષ્ટ્રીય મંચની જરૂરત વર્તાતાં સન ૨૦૦૨માં વર્લ્ડ મેમણ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WMO)ની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. આ સંસ્થા આરંભથી દુખિયારી માનવતાની અને ખાસ કરીને મેમણોની ભલાઈ માટે ઉમદા કામગીરી બજાવી રહી છે.

WMO અને કુદરતી આફતો

સેવા માટે હરહંમેશ તત્પર રહેતી WMO ૮મી ઓકટોબરે ઉત્તર પાકિસ્તાનમાં ધરતીકંપ આવતાં જ સાબદી થઇ ગઇ હતી અને WMOના પાકિસ્તાન ચેપ્ટરે ઓલ પાકિસ્તાન મેમણ ફેડરેશનના સથવારે કંપગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં પહોંચી જઇને તાબડતોબ રાહતકામ આરંભી દીધું હતું. અસરગ્રસ્તોને તંબુ, ખોરાક, કપડાં, દવાઓ ઉપરાંત રોકડ રકમની મદદ પણ આપવી શરૂ કરી દેવાઇ હતી. કરાચીની પટેલ હોસ્પિટલના સહકારથી ઇસ્લામાબાદમાં એક તબીબી છાવણી પણ ઊભી કરી દેવાઇ હતી, જ્યાં જખ્મી અઅસરગ્રસ્તોને દિનરાત સારવાર અપાતી હતી. બેઘર થઇ પડેલા ભૂકંપગ્રસ્ત પરિવારોના પુન:વસવાટ માટે ૩૦૦ જેટલા મકાનો પણ બાંધી અપાચા હતા.

હવે તાજેતરમાં જુલાઈ ૨૦૧૦માં પાકિસ્તાનના એક બહુ મોટા વિસ્તારમાં પ્રચંડ પૂરે તબાહી મચાવી છે અને મેમણ બિરાદરી ફરી એકવાર દુખિયારાઓના દર્દને મહેસુસ કરીને લાખો પૂરપીડીતોની મદદે દોડી ગઈ છે. રાહતકામ હજુ પણ ચાલુ જ છે. એ માટે WMOએ શરૂમાં જ કરાચીની શેખાની ફાઉન્ડેશનના સહકારથી એક પાકિસ્તાન ફલડ રીલીફ ફંડની સ્થાપના કરી લીધી હતી.

'મેમણ આલમ'ના આ અંકનો કેન્દ્રિય વિષય-વિચાર "પાકિસ્તાનના પૂર-એક અભૂતપૂર્વ અણધારી વિપદા"રખાયો છે. આ વિસ્તારના પૂરા ઇતિહાસમાં પાકિસ્તાનના વર્તમાન પૂર જેવી કુદરતી આપતિનો જોટો જકે એમ નથી અને પ્રસ્તુત અંકમાં રજૂ કરાયેલા લેખોથી આફતના આ કપરા સમયમાં મેમણ બિરાદરી અને ખાસ કરીને WMO તથા શેખાની ફાઉન્કેશને પૂરપીકીતોની મદદ માટે ભજવેલી ભૂમિકાનો સ્પષ્ટ ચિતાર મળી રહેશે.

-પીરમુહમ્મદ કાલીયા ચીફ એડીટર મેમણ આલમ

પેટાખંડની આઝાદી ચળવળમાં પ્રાણ પૂરનાર મદ્રાસના મેમન સિંહ

याडुज हसन



ભયની લાગણી દ્રષ્ટિગોચર થવા લાગી. સોં કોઈ વિચારી રહ્યા હતા. હવે શું થશે ?

ત્થાં તો..... આગે IKS भयानड 34 धारध કર્યાં, जो तजो तामां પંજાબ પ્રાંત સળ இதவி. oil પોલિસ થાણાઓો ને અગ્નિ ચાંપવામાં આવી અને લોકોએ 218 અધિકારીઓ સાથે બાથ ભીડી. ગોળીલાર. કત્લેઆમ, હાય વરાળ વચ્ચે..... યહ, સર જાએ તો

મુકમ્મીલ આઝાદીનો ઠરાવ મોલાના ઝફરઅલી ખાને કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં પસાર કરાવ્યો, ત્યારે દેશમાં એક તાઝી રૃહ ફૂંકાઈ ગઈ. ઝફરઅલી ખાનની આ ઘોષણા પછી આઝાદીની ચળવળે બળવાનું રૂપ ધારણ કર્યું. કોંગ્રેસના મોવકીઓ વિમાસણમાં પડ્યા. અંગ્રેજોની આંખ લાલ બની, રાજકર્તાઓની દરેક પ્રવૃત્તિ કોપાયમાન બની ચારે તરફ આઝાદી ઘર આએ

નો પ્રચંક નાદ ઘેરો બની ગયો.

જોતજોતામાં અંગ્રેજ માંધાતાઓએ કોંગ્રેસના અગ્રગણ્ય નેતાઓની બહોળી સંખ્યાને જેલના સળિયા પાછળ પૂરી દીધા. અંતે કોંગ્રેસના નેતાઓએ ચળવળની તહેકુબી જાહેર કરી..... કેમ કે ખૂદ ગાંધીજીની હિંમત પણ તૂટી ગઈ હતી.

હકીમ અજમાલ ખાન, કો. અન્સારી, તસદદુક હુસચન શેરવાની, ઉમર સોબાની, મિયાં મુહમ્મદ છોટાણી, અહમદ સિદ્દીક ખત્રી, રફી અહમદ કીડવાઈ, મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, અસફઅલી, મુહમ્મદ અલી અને શવકત અલી જેવા કોંગ્રેસના મુસ્લિમ નેતાઓમાં મદ્રાસના જનાબ ચાફબ હસન પણ ખાસ સ્થાન ધરાવે છે.. યાકુબ હસન કોંગ્રેસના નેતા હતા. સો કોઈ એમને માનની નજરે જોતા હતા. એમણે દેશની સારી એવી સેવા બજાવી છે. જેલની ચાતનાઓ સહન કરી છે. તે સમય ખિલાકત ચળવળ ને પણ જવાન બનાવવામાં એમનો મોટો કાળો છે. ખીલાકત ચળવળના પણ એ પાણ સમા હતા.

અલી બિરાદરોને પ્રોત્સાહન રૂપે બી અમ્માનું એ ગીત આજે પણ સાંભરે છે......

બોલી અમ્મા મુહમ્મદ અલીકી જાન બેટા ખીલાકત પે દે દો

અલી બિરાદરો, કોંગ્રેસને પડખે હતા, કોંગ્રેસ મુસ્લિમ સહકારથી પ્રાણવાન બની હતી, છતાં મનહુસ નહેરૂ રિપોર્ટથી કોંગ્રેસના માનસનો પરિચય થઈ જતાં અલી બિરાદરોએ કોંગ્રેસથી અલગ થવાની દુ:ખભરી ફરજ પડી.

યાકુબ હસન કચ્છી મેમન હતા.

એમનો જન્મ ઈ.સ. ૧૮૭૫માં નાગપુર મુકામે થયો હતો. પ્રાથમિક કેળવણી એમણે મદાસમાં લીધી હતી.

) ୬୬୫୭ - ବାର୍ୟ- ଆନ୍ତର୍ମ୍ଭୟ-2040 એ પછી ઉચ્ચ કેળવણી અર્થે અલીગઢ ચુનિવર્સીટીમાં દાખલ થયા.

ઈ.સ. ૧૮૯૩માં અભ્યાસ પૂર્ણ કરી અલીગઢથી બેંગ્લોર ગયા. ઈ.સ. ૧૯૦૧માં બેંગ્લોરથી પાછા મદ્રાસમાં સ્થાચી થયા હતા. આ સમય દરમ્યાન તેઓએ સામાજીક કાર્યોમાં ભાગ લેવા માંડયો અને તે પછી એમના જીવનમાં રાજકારણનો રંગ પ્રવેશ્યો. વેપાર ક્ષેત્રમાં પણ ખૂબ નામના મેળવી.

યાકુબ હસન નેતા હતા. ઉપરાંત એક મહાન આલીમ પણ હતા. કુઆંન, હદીસ અને દીની બાબતો પર એમનું સારૂં વર્ચસ્વ હતું. અરબી ભાષા એમની ઝબાને રમતી હતી. ફારસી ભાષાના એ રસીચા હતા. તકરીરો ખૂબ જોરદાર થતી. સાંભળનારાઓ મુગ્ધ બની સાંભળ તા, જાણે એમની વાણીમાં જાદુ હતો. કુઆંનની તફસીર એમણે લખી હતી જે ખરેજ અનોખી હતી.

હેં દ્રાબાદના નવાબ મીર ઉસ્માન અલીખાન નીઝામે આ તફસીર પ્રસિદ્ધ કરવા રૂપિયા સાઠ હજારની નાદર રકમ આપી હતી. તેઓ પત્રકારિત્વમાં પણ ખૂબ મશ્હુર હતા. ઉર્દુંમાં 'કોમી હલચલ' અને અંગ્રેજીમાં 'પેટ્રીઓટ' કાઢતા હતા. આ બંને પત્રો બહુજ દિલચશ્પીથી વંચાતા હતા. એમના અગ્રલેખો ખૂબ મનન ખંડણી મેળવતા. સાહિત્ય અને શૈલિમાં ખૂબ કાબુ હતો.

મુસવ્વીરે ગમ હઝરત ખ્વાજા હસન નિઝામીએ એમના વિષે લખ્યું હતું કે ચાકુબ હસન પણ એક મવલાના સમાન છે પરંતુ દાઢીવાળા મવલાના નહીં એમનું વ્યક્તિ શાનદાર છે. રૂપાળો રંગ, ગંભીર ચહેરો, મોટી અસરકારક આંખો, કદ પ્રમાણસર મજબૂત બાંધાવાળું શરીર, સાફ અને બુલંદ અવાઝ, તકરીર

કરવાનો અનોખો અંદાઝ બાળવચથી કોમી ખિદમતની દિવાનગી છે, સર સેયદની કેળવણી રોમે રોમમાં વ્યાપી ગઈ છે. સ્વભાવમાં તીવ્રતા ગંભીરતા કૂટી કૂટીને ભરી છે. અડીખમ આચાર-વિચારે એમને નેતા બનાવી દીધા છે, મુસલમાનોના પાસબાન **બ**नीने मिस्सतनी सेवा डरी रहा। छे. પોતાની કોમનું નુકસાન સહન કરી શકવાની સિંહ જેવી ગર્જના કરી મુસલમાનોની રક્ષા કરવા કુદી પડે છે. મગજશકિત તીવ્ર અને પુખ્ત બુદ્ધિશાળી છે. હસમુખો ચહેરો સ્વભાવે આનંદી નિર અભિમાની ખુશ મિજાજાના કારણે સૌ એમનાથી ખુશ રહે છે. જો તેમની લાંબી દાઢી હોત તો તેઓ પણ મોલ્વીઓમાં ખપી odd."

એમણે લખેલું 'તુસ્સહુલ હુદા' નામનું દળદાર પુસ્તક જેમાં કુર્આન શરીફ ઉપર ઉર્દુમાં સરેહ હતી. આજ પુસ્તકથી તેઓ ઉર્દુના એક અનોખા કલમકાર તરીકે સિદ્ધ થયા હતા. આ પુસ્તકે ખૂબ ખૂબ પ્રશંસાની ખંડણી મેળવી હતી અને ઈલ્મે દીનના અભ્યાસીઓ એમને માનની નજરે જોવા લાગ્યા હતા.

રાજકારણમાં ભાગ લેવાને કારણે ચાકુબ હસનને બે વખત જેલની ચાતનાઓ સહન કરવી પડી હતી. છેલે કુડાલોર જેલમાંથી એમને કઠી ઓગસ્ટ ૧૯૨૩ના મુકત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમને નવેમ્બર ૧૯૨૧માં બે વર્ષની સજા ગઈ હતી. સજાની મુદ્દત પહેલાં ખાસ હુકમ દ્રારા તેમને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ઇ.સ. ૧૯૧૬થી ૧૯૨૦ દરમ્યાન તેઓ મદ્રાસ કોન્ફરન્સના સભ્ય હતા. મુસ્લિમ પાર્ટીના મુખ્ય લીકર હતા. આ સમયમાં તેઓ મદ્રાસ કોર્પોરેશનના સભ્યપદે બહુમતિથી ચુંટાયા હતા. ઉપરાંત मद्रास युनिवर्सीटीना ईतो निमाया हता. वेपारना विडास अर्थें के वफत १८९२ अने १८९८मां युरोपनी मुसाइरी डरी हती अने पोताना वडील जंधु जान साहल हमीह हसननी साथे मद्रास मोहमेहन એજયુકેશન सोसायटीनी स्थापना डरी हती.

ઈ.સ. ૧૯૨૭માં તેઓ અખીલ હિંદી કચ્છી પ્રજાકીય પરિષદના પ્રમુખ યુંટાયા હતા. પોતાની ઝિંદગીનો લાંબો સમય કાઢી એમણે દેશ સેવાને અપૈંણ કીદ્યો હતો. કોંગ્રેસ ખિલાફત અને મુસ્લિમ લીગની પ્રવૃત્તિઓમાં અગ્ર સ્થાને રહી દેશની સેવા બજાવી હતી.

યાકુબ હસનના લગ્ન ખીલાફત ચળવળ પ્રસંગે સીંગાપોરના તુર્ક કોન્સલની કેળવાચેલી પુત્રી અતિલ ખાનુમ સાથે થયા હતા. એમના તુર્ક મહોરદાર બેગમ ચાકુબ હસન પણ મદ્રાસના મુસલમાનોના જાહેર જીવનમાં ખાસ રસ ધરાવતા હતા. આ મહિલા પણ મદ્રાસ કાઉન્સીલની એક સ્ત્રી સભ્ય તરીકે ચુંટાયા હતા.

ચાકુબ હસન કોંગ્રેસના પાકા પુજારી હતા. તેઓ મદ્રાસ કાઉન્સીલમાં કોંગ્રેસની ટીકીટ પર ચંટાઈ આવ્યા હતા અને કોંગ્રેસ પ્રધાનમંડળ બનતા તેઓ જાહેર બાંધકામ ખાતાના પ્રધાન નિમાચા હતા જયારે કોંગ્રેસે બહિષ્કારની ચળવળ શરૂ કરી અને ગાંધીજાએ "Quit India"નો નાદ જગાવ્યો અને પ્રધાનમંડળે રાજીનામું આપી છુટા થયા ત્યારે ચાકુબ હસને પણ પોતાના ઓહદાનું રાજીનામું આપ્યું. તેઓ ખૂબ તંદુરસ્ત હતા. એપ્રિલ ૧૯૪૦માં તેઓ મઝહરપુરી (રામગઢ) કોંગ્રેસના અધિવેશનમાં ભાગ લીધા પછી પાછા કરતા

GUJRATI SECTION

અચાનક હૃદય પર હુમલો થયે હૃદય બંધ પડવાથી તેઓ ૩૦મી ઓક્ટોબર ૧૯૪૦માં અવસાન પામ્યા. મરણ વખતે એમની વચ પાંસઠ વર્ષની હતી.

અતિલ ખાનમથી એમને એક પુત્રની નવાઝિશ થઈ હતી જેનું નામ અતા હુસચન હતું. એમના મોટા ભાઈ હમીદ હસનના બે પુત્રો, જાફર હસન અને મહેમૂદ હસન બી.એ. (અલીગ) પાકિસ્તાનમાં મૃત્યુને શરણ થયા છે. મહેમુદ હસન દિલ્હીથી 'ડોન' અખબારના મેનેજરપદે હતા અને પાકિસ્તાનમાં પણ 'ડોન' અખબારને સેવા આપતા હતા.

મોલાના સેંચદ સુલેમાન નદવીએ ચાકુબ હસનના પુસ્તક 'કીતાબુલ હુદા'ની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે:

"શેઠ 'ચાકુબ' હસને જયારે 'ચુસુફ' બનીને કેદખાનામાં પગ મૂકયો ત્થારે તેઓ ખાલી હાથે અંદર ગયા હતા પરંતુ જયારે તેઓ પોતાની મુશ્કેલીઓનો સમય પૂરો કરીને જેલના દરવાજા બહાર આવ્યા ત્યારે મેં જોયું કે તેઓ ખાલી હાથ ન હતા. તેની સાથે કીતાબુલ હુદા માટેની સામગ્રી હતી.

શેઠ સાહેબ અરબી ભાષાના મોટા આલીમ ન હતા અને દીનીયાતના કાયદેસરના અભ્યાસી પણ ન હતા છતાંએ લગાતાર મહેનતથી તેઓ સર્વ કંઈ બની શક્યા. કીતાબુલ હુદામાં જે મુખ્ય કામ છે તે આયતોની પસંદગી અને ગોઠવણીનું છે. શેઠ સાહેબનું મગજ તત્વજ્ઞાન અને સંશોધન તરફ ઢળેલું છે એટલે એકાંતની પળોમાં જયારે કુરઆન શરીફ સિવાય તેમનો બીજો કોઈ સાથી ન હતો ત્યારે તેમને भनमां प्रश्न ઉદભવ્યो हे, ઈસ્લામ શું છે ? અમુક પ્રશ્ન કુરઆને શરીફમાં શું ઉત્તર આપેલા છે ? તેમને આ બધા પ્રશ્નોના જવાબ એક્જ સ્થળે ન મળી શક્યા. એ માટે તેમને એક અર્થની તમામ આયતોની પસંદગી કરવી પડી. સંશોધનવૃત્તિના પરિણામથી તેમની હિંમત વધી અને પરિણામે કીતાબુલ હુદામાં તેમણે દરેક પ્રશ્નના માટે કુરઆને પાકની આયતો એક સ્થળે એકઠી કરીને તેનો તરજુમો લખ્યો. તેમની પૂરી કીતાબ મેં વાંચી છે......"

ઉપરોક્ત લખાણથી ચાકુબ હસનમાં તત્વજ્ઞાની અને સંશોધન વૃત્તિઓ હોવાનું જણાઈ આવે છે. તેઓ ઉપરોક્ત કીતાબનો બીજો ભાગ પૂરો કરે તે પહેલાં જ તેઓ હૃદય બંધ પડી જવાના કારણે ઈન્તેકાલ પામ્યા હતા.

'મેમણ આલમ' એપ્રિલ ૧૯૬૭ના અંકમાં પ્રગટ થયેલા જનાબ 'આઝાદ'ના લેખ પરથી

સોના જેવા અનમોલ મોતી

- નાની-નાની બાબતોમાં ચોકસાઈ રાખવાથી જ મોટા સામ્રાજયનો પાચો નખાય છે.
- બુદ્ધિમાન પુરુષાર્થને મહેનતને જ માન આપે છે.
- જ્યારે મહાન માનવી સંઘર્ષમાં એકલો હોય છે ત્યારે તે સોથી વધુ શક્તિશાળી હોય છે.
- જો તું તારા આત્મવિશ્વાસને ઓળખી લે તો તું વામન મટી વિરાટ બની જશે.
- વિશ્વને તમારા કામથી જ મતલબ છે, તમારા વિચારોથી નહિ.
- 🗆 પ્રયત્ન કરતા રહેવામાં કોઈ શરમ નથી.
- તમારા મા-બાપ તમારા ખર્ચ ઉઠાવીને થાકી ગયા છે, તે હકીકત
 બને તેટલી વહેલા સમજી લો.
- મહાન લોકો સામાન્ય હોય છે, જેઓ અસામાન્ય સંકલ્પ ધરાવતા હોય છે.
- 🗆 સુખી થવું હોય તો તમે પોતે જ તમારા ગુરૂ બનો.
- દુનિયામાં કાયરોની કદર નથી, જેનામાં તાકાત છે તે સોને પસંદ છે.
- 🗆 મહાન ધ્યેયનું સર્જન મૌનમાં થાય છે.
- 🗆 માણસને શારીરિક શક્તિ નહિ, આંતરિક શક્તિ જીતાડે છે.
- ગુસ્સો સમજી વિચારીને કરો. તમે જેવું વિચારો છો એવા તમે
 બની જાઓ છો.
- 🗆 लीतरना संतोषनी तोले, साम्राજ्यनो वेलव पण न आवे.
- 🗆 ભૂખ-તરસ કરતા આત્મસંતોષને વધારે મહત્વ આપજો.
- 🗆 પારકી આશ સદા નિરાશ.
 - અલ્લાહ સોને દીન-દુનિયામાં કામ્યાબી બખ્શે.

GUJRATI SECTION

श्रेडीआ

di. 6-3-9636

અહીં તા. ૯–૩–૧૯૩૬ના રોજ અંજમને ઈસ્લામની સભા, જ. કાસિમ પીરમહમ્મદના પ્રમુખપદે મળી હતી જેમાં પરદેશથી પધારેલા महेमानोने मानपत्र आपवामां આવ્યું હતું. મહેમાનો તરફથી રૂા. ૧૫ની અંજુમનને નવાઝીશ કરવામાં આવી હતી.

સભામાં બીજા પણ બે અગત્યના કાર્યો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા જેમાંથી કન્યાશાળાની બાબત હાથ ધરાતાં, શેઠ અબ્દલ્લાહ અબ્દુલ ગનીએ કન્યાશાળા ચાલ્ કરવામાં આવે તો પોતાના તરકથી માસિક રૂા. ૧૦ની ગ્રાંટ આપવાનું જાહેર કર્યું હતું.

બીજો વિષય સોસાયટીને અંજુમન ઉપરનો હોલ આપવા બાબત હાથ ધરતાં સભાએ એ માટે એક કમિટી નીમી ફેંસલો આપવાનું ઠરાવ્યું હતું. ત્યાર બાદ સભા બરખાસ્ત થઈ હતી.

ડાંજજોટ

di. 94-3-9636

ધી યંગ મેન્સ મેમણ એ સોસિએ નની સભા aı. ૧૫–૩–૧૯૩૬ રવિવારના રાત્રે સંસ્થાના પ્રમુખ શેઠ હાજી વલીમુહમ્મદ જીવાભાઈના પ્રમુખપદે મળી હતી જેમાં ઓડિટરોના રિપોર્ટ સહિત, સેક્રેટરીએ હિસાબ કિતાબ રજુ કર્યો હતો જે સભાએ મંજુર રાખ્યો હતો અને બારમા વર્ષ માટે રૂા. ૩૭૦નું બજેટ મંજુર થયું હતું. નવા વર્ષ માટે હોદ્દેદારો અને મેનેજીંગ બોર્ડના મેમ્બરોની નીચે મુજબ ચુંટણી થઈ હતી.

પ્રમુખઃ ઉસ્માન ઈસાભાઈ વકીલ બીએ એલએલબી. ઉપ પ્રમુખોઃ

ઉસ્માન ગની હાજા તૈયબ 'શબનમ' (એડીટર 'મેમણ બુલેટિન'), અને યુસુફ વલીમુહમ્મદ મોતીવાલા, ઓન. સેક્રેટરીઃ અબ્દલ ગની દાદાભાઇ મેઘાણી, જોઇન્ટ સેક્રેટરીઃ હાજી વલીમ્હમ્મદ અલીમુહમ્મદ, ખજાનચी: નૂરમુહમ્મદ ઐચુબ ગોપાલાની, ઓડિટરોઃ અ. કરીમ તૈયબ જુનાણી અને અબ્દુલ શકુર ઉમર મુસાણી.

મેનેજીંગ બોર્ડના સભ્યોઃ (૧) હાજી વલીમુહમ્મદ જીવાભાઈ (૨) અ. રહીમ અ. કરીમ મારફાની, (3) યુસફ કાસિમ મારફાની (૪) હાજી ઉમર હાજી વલીમૃહમદ

(५) मुढम्मह ઉस्मान 📲 જુમાણી (૬) દાઉદ અલીમુહમ્મદ (9) ઉસ્માન ન્રમ્હમ્મદ ગોપાલાની (0) અલ્દ્લાહ યુસ્ફ (૯) ઉસ્માન અ. ગોપાલાની અને (૧૦) અલ્દુલ શક્ર ઉમર મુસાણી.

भा Buzia લાયબ્રેરી વ્યવસ્થા કમિટી અને લાવારિસ भेयतने अप्यय बाह्य

મંત્રિલ પહોંચાડનારી કમિટીઓની પણ ચુંટણી થઈ હતી. ત્યાર બાદ અગિયારમા વર્ષના નિવૃત થતા ઓહદેદારોનો આભાર માનીને સભા વિસર્જિત થઈ હતી.

SGSTI

di. 99-3-9639

લોર્ડ ઈચક્રેપની પાર્ટીમાં કારણ વગર કરાચેલા બીનજરૂરી વખાણ સંબંધે જ. જુનાણીએ વાંધો લીધો હતો. તેમનો મુદ્દો એ હતો કે વેપારી આલમના નામે અગર કામ કરવું હોય તો તેની રીતે થવું જોઈએ. ત્થાર બાદ સત્તરમી માર્ચે ઓનરેબલ સર

જયોર્જ કેમ્પબેલના 'સર' થવાની ખુશાલી માટેની ગાર્ડનપાર્ટીના કાર્ડો મિત્રો અને વખાણનારા તરફથી કઢ ાયા છે. આ રીતે જ. જાનાણીની લડત આખરે કામ્ચાબ થઈ છે તે બદલ તેમને મુબારકબાદ. ખરી લડત માટે બીજાઓની હિંમતઅકઝાઈ કરવા બદલ શેઠ આદમજી હાજી દાઊદ પણ પ્રશંસા માંગી લ્યે છે.

उपरोडत पार्टी जेलस्टन પાર્કમાં શેઠ આદમજી હાજી દાઊદના પ્રમુખપદે ચોજાઈ હતી. સેક્રેટરી તરીકે મેસર્સ હુરોન કાસમ દાદા ફર્મની વતી ઉસ્માન ક્ડીઆ

मेमधा

કોમ

પહેલાં

75 av

coà in

dile.

શેઠ હાજા અ. સત્તાર હાજા પીરમુહમ્મદ, જ. સુલેમાન ભુરા, જ. જુનાણી શેઠ, અ. કરીમ આદમ હાજી પીરમુહમ્મદ, જ. અલીમુહમ્મદ કાળા, જ. ઈસ્માઈલ રહીમતુલ્લાહ જાંગડા, જ. ગની દાદા અને શેઠ હાજી અબ્દુશ્શકુર બેગ મહમ્મદ

પાર્ટીઓની ബാഗപി સરખામણીમાં આ વખતે વ્યવસ્થા ઘણી જ સરસ હતી, જે મોટે ભાગે મેમણ ભાઈઓના હાથમાં હતી.

સુબાશાહનો સમાવેશ થાય છે.

જ. અલ્દુસ્સત્તાર હાજી સુલેમાન નવિવાલા, ઓલ ઈન્ડીયા

G-06

મેમલ આલમ- ઑકટૉબર-૨૦૧૦

W GUJRATI SECTION

મેમણ કોન્ફરન્સની ચોથી બેઠકના પ્રમુખ, શેઠ હાજી અબ્દુલ્લાહ હારૂન સાથેની સાકરની મીલમાં સારે પગારે જોડાયા છે.

અમરેલી તા. ૫–3–૧૯૩૬

ગયા શનિવારે સાંજે યુવક મંડળના પ્રમુખ ભાઈ જુસબ આરબીએ કટપીસની બીજી નવી દુકાન ચાલુ કરી હતી. ફાતિહાખ્વાની બાદ ચાહ-ટિફિન લઈ મેળાવડાનું વિસર્જન થયું હતું.

ઈંદુઝઝોહાની નમાઝ બાદ રાબેતા મુજબ જ. અ. ગની દારૂવાળ ા તરફથી બોંબગાળા ફોડવામાં આવ્યા હતા. નમાઝ અદા કર્યો પછી બેન્ડ સાથે તમામ મુસલમાનો દબદબા સહિત પાછા ફર્યા હતા.

ता. ७-3-९६ उड़ ना रोष अिंडना हमहर्ष्ट शेठ हालु मुसा ईस्माईल तरइथी जोडीं गना विद्यार्थीओ, स्टाइ अने डार्यवाहड समितिना सक्योंने पार्टी आपवामां आवी हती षेमां ष. ઉस्मानलाई डासमाधीओ विवेचन डरी पोताना ष्मपानना अनुभवो वर्षांच्या हता. हालु साढेंजे दुंडुं परंतु जोधहायड भाषण डर्युं हतुं. जोडीं गना सुप्रिन्डेन्ट साढेंजे हालु साढेंजनो तथा जीषा भाईओंनो आलार मान्यों हतो.

રંગુન તા. ૫–૩–૧૯૩**૬**

ઈંદુઝઝોહાના દિવસે મેમણ જમાત તરફથી મર્ચન્ટ સ્ટ્રીટ નં પલ્ટ શેઠ આદમજી દાઊદની ઓફિસના નીચલા તલામાં ઈંદ મિલનનો જલ્સો ચોજવામાં આવ્યો હતો.

ઓ. જોઈન્ટ સેક્રેટરી ભાઈ અબ્દુલ હબીબ ચાકુબ અને હેડ કલાર્ક ભાઈ આદમજી અ. ગનીએ બધાને આવકાર્યાં હતા. તિલાવત બાદ જમાતના પ્રમુખ જે. એચું બ અ. કરીમે આવકાર આપતાં ઈંદની મુબારકબાદી આપી હતી. આ ઉપરાંત જે. મહેમુદ એ. કે. હાજી ગની, જે. ઈબ્રાહીમ હાજી અહમદ, જે. ચાહચા ઝીકર કામદાર, જે. આરિફ અબ્દુલ ગફફાર, જે. અબ્દુલ કરીમ અબ્દુશ્શકુર મુછાળા, જે. અ. સત્તાર શવકીન, કો. એમ. એ. કરીમ, જે. મુહમ્મદ હાજી ઉસ્માન તથા જમાતના ઓન. સેક્રેટરી જે. હાજી મુહમ્મદ હાજી એચુંબે પ્રસંગોચિત્ત વિવેચનો કર્યાં હતા.

અક્યાબ તા. ૫–૩–૧૯૩૬

ભાઈ હબીબ સાલેહમૃહમ્મદ ખડિયાવાળા, જ. અ. રહેમાન હાજી તૈયબ અને જ. સુલેમાન ઈબ્રાહિમ સખીના શુભ પ્રચાસોથી ઈદ પ્રસંગે અહિંના મેમણ ભાઈઓનો એક મેળ ાવડો આહમદ બેરિસ્ટરવાળા મકાનની દલાલ ભાઈઓની વીસીમાં ચોજવામાં આવ્યો હતો, જેમાં અહીં વસ્તા લગભગ બધા મેમણ ભાઈઓએ હાજરી આપી હતી. પ્રમુખસ્થાન શેઠ હુસેન કાસિમ દાદાના મેનેજર જ. અ. કરીમ તૈયબને આપવામાં આવ્યું હતું. સભાની શરૂઆત જ. જાુસબ હાજી કરીમે ક્રઆને કરીમની તિલાવતથી કરી હતી.

શેઠ સુલેમાન હાજી પીરમુહમ્મદ દિવાને વેલ્ફેર સોસાયટીની ઉપયોગીતા સમજાવી મેમણ ભાઈઓને સહકાર કરવા હાકલ કરી હતી.

જ. અબ્દુર્રંહમાન દાઊદ કરીમે વેલ્ફેર સોસાચટીની કેળ વણી વિષચક પ્રવૃત્તિઓના વખાણ કરતાં જણાવ્યું હતું કે વેલ્ફેર સોસાચટીની મેમ્બર ફી રૂા. ૧૦ રાખવામાં આવી છે તે સાધારણ વર્ગના મેમણ ભાઈઓ માટે વધુ પડતી હોઈ, સોસાચટીની પુનિત પ્રવૃત્તિઓમાં સહાચક થઈ શકતા નથી. અગર આ ફી ઘટાડવામાં આવે તો મેમણ ભાઈઓ મોટી સંખ્યામાં સોસાચટીના સહાચક થઈ શકે. છેવટમાં તેમણે સોસાચટીને ચથાશકિત મદદ કરવાની સભાજનોને અપીલ કરી હતી.

વંથલી-સોરઠવાળા ભાઈ સુલચમાન અલીમુહમ્મદે મેમણ કોન્ફરન્સના ફાયદાઓ ગણાવ્યા હતા અને તેના પરિણામે કોમના કૂરિવાજો બંધ થયા બદલ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ધોરાજીવાળા ભાઈ યુસુફ હાજી અ. કરીમે ફુરબાનીનું મહત્વ સમજાવી કોમી એકચ માટે હાકલ કરી હતી.

જ. અ. રહેમાન હાજી તેયુબ કાપડીયા ગીલગીલીએ મેમણ કોંમમાં હિંદુ લોના બદલે મોહમેડન લો જારી થાય એવી ઈચ્છા દર્શાવી હતી અને નોકરસમુદાયની મુશ્કેલીઓ વર્ણવી હતી.

છેવટમાં પ્રમુખ સાહેબના પ્રવચન બાદ મેળાવડો બરખાસ્ત થયો હતો.

પાંજી બોલી, મેમણી બોલી નાંચ ઈન્સે, મીઠી કોઈ બોલી ગર્વસે બોલો, મેમણી બોલો !

G-07

મારી ડાયરી



સંકલનઃ ઉમર અ. રહેમાન ખાનાણી

સમજ, સરકાર, મઝહબ, સિચાસત, સાહિત્ય, પગકારિત્વ, ઇતિહાસ, વિજ્ઞાન અને રમત-ગમત સહિતના જાહેર જીવનના લગભગ તમામ ક્ષેત્રોમાં મેમણ બિરાદરીના સભ્યો અગત્યનો ભાગ ભજવતા રહ્યા છે, જેની નોંધ રખાવી જોઈએ. આ સંબંધમાં 'મેમણ આલમ માં અપાતી રહેલી માહિતીઓમાં મેં ૧૯૪૯થી જ મારી ડાયરી લખવી શરૂ કરી હતી. એ ડાયરીને સન ૨૦૦૩માં My Diaryના શિર્ષક હેઠળ અંગ્રેજીના પુસ્તક રૂપે પ્રગટ કરવામાં આવી હતી. એ પુસ્તકમાં ડિસેમ્બર ૨૦૦૨ સુધીની ટુંકી નોંધો ટપકાવેલી હતી. હવે એ પછીના ગાળાની નોંધો અત્રે પ્રગટ કરવામાં આવી રહી છે, જે ભવિષ્યમાં નવી પેઢી માટે અગત્યની પુરવાર થઈ શકે છે. મજકુર ટુંકી નોંધોની વિગતવાર માહિતી 'મેમણ આલમ માસિકમાં પ્રગટ થઈ ચૂકી છે.

46-4-5004

મેમણ બિરાદરીના જાણીતા સખીવજુદ જ. અ. ૨ઝઝાક ઢબ્બાનો ગુરૂવાર તા. ૧૯ મે ૨૦૦૫ના ઈન્તેકાલ થયેલ.

જ. અ. ૨ઝઝાક ટબ્બા ચુનુસ બ્રધર્સ ઓફ ગ્રુપ કંપનીના ચેરમેન હતા. દેશના નિકાસ ક્ષેત્રમાં મહત્વનો ફાળો આપવા બદલ રાષ્ટ્ર પ્રમુખ તરફથી તેમને 'સિતારા-એ ઈમ્તીચાઝ'નો ખિતાબ આપવામાં આવેલ.

4-2004

મેમણ બિરાદરીના તાલીમી પિતા સર આદમજી હાજી દાઊદની સેવાકીચ કાર્યો પર પ્રકાશ નાખતા ઉપયોગી અંગ્રેજી પુસ્તક The Merchant Knight Sir Adamjee Haji Dawoodની વિમોચનવિધિ પાકિસ્તાનના માજી વિદેશ પ્રધાન સાહિબઝાદા ચાકુબ ખાનના હસ્તે કરવામાં આવી હતી.

49-6-5004

બ્રિટનની મહારાણી એલીઝાબેથે ૧૧મી જુન ૨૦૦૫ના રોજ તેમની વર્ષગાંઠના અવસરે ગ્રેટ બ્રિટનમાં રહેતા જનાબ ઈક્બાલ સાકરાનીને સરના ખિતાબથી નવાજયા હતા. માર્ચ ૧૯૯૯માં તેમને 'ઓર્ડર ઓફ ધી બ્રિટીશ એમ્પાયર' OBE મેળવેલ છે.

99-5-2004

શનિવાર તા. ૧૧-૬-૨૦૦૫ના ઓલ પાકિસ્તાન મેમન ફેડરેશનના માજી પ્રમુખ મોહમ્મદ ફારૂક મોટલાણીનો ઈન્તેકાલ થયેલ.

23-9-2004

ધી મેમણ એજચુકેશનલ એન્ડ વેલ્લ્ફેર સોસાચટી (ભારત)ના પેટ્રન દક્ષિણ આફ્રિકાના જાણીતા દાનવીર જ. જુસબ એમ.સી. ઘુરનો તા. ર3-9-૨૦૦૫ના રાચબર્ગ-દક્ષિણ આફ્રિકા ખાતે ઇન્તેકાલ થયેલ.

99-8-2005

મેમણ બિરાદરીના અગ્રણી કાર્યંકર તેમજ તહેરિકે અવામે એહલે સુન્નતના ચેરમેન હાજી મોહમ્મદ હનીફ બિલ્લુ તા. ૧૧-૪-૨૦૦૬ના ઈદે મિલાદુન્નબી (સ.અ.વ.) પ્રસંગે કરાચીમાં થયેલ ભયાનક બોંબ ધકાકામાં શહીદ થયા હતા. તેઓ પાકિસ્તાન હજ-ઉમરા કમિટીના સક્રિય કાર્યંકર હતા.

8-4-2009

પાકિસ્તાનના પ્રમુખ જનરલ પરવેઝ મુશર્રફે ઈસ્લામાબાદમાં કાલીચા ગ્રુપના ચેરમેન જ. હનીફ એસ. કાલીચાને ફેડરેશન ઓફ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ તરફથી અપાચેલ બિઝનેસમેન ઓફ ધ ઈચરનો ગોલ્ડ મેડલ પહેરાવેલ.

20-4-2009

શનિવાર તા. ૨૦-૫-૨૦૦૬ના વર્લ્ડ મેમણ ઓર્ગેનાઈઝેશનની ચોથી વાર્ષિક સભા કોલંબો ખાતે શ્રીલંકાના મેમણ એસોસીએશનની પ૦મી વર્ષગાંઠ પ્રસંગે ચોજાઈ હતી.

શ્રીલંકાના વડા પ્રધાન ઓનરેબલ મિસ્ટર રત્નાગીરી વિક્રમાનાચકે મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજરી આપી હતી અને શ્રીલંકા મેમણ એસોસીએશનના શાનદાર પુસ્તક 'ધી મેમન્સ ઓફ શ્રીલંકા'ની વિમોચનવિધિ કરી હતી.

* * *



मेमधी रुहेवतो

તોજે મથે થોળો ભુંગરો ભજીયો આય

તારા સિવાય કામ અટકી નહિ

SIR

તાળી બો હથથી વજે

સારૂં નરસું કોઈ પણ કામ બંને પક્ષોની મંજૂરીથી થાય છે.

તેલ બરે રાજાજો ને પેટ બરે મસાણીજો

ખર્ચ થાય એકનું ને બળતરા થાય બીજાને.

તાવડી તડાકા ડેતી

કડકા માણસ માટે ઉપરોક્ત કહેવત વપરાચ છે.

ત્રેમેં તેલ નેં

વાતમાં કંઈ માલ નથી.

થદે પાણીએ ખસ વી વગર મહેનતે મુસીબત ટળી.

થપ્પડ મારીને મુંહ લાલ રખાણું

જબરદસ્તી વધુ પડતો દેખાવ કરવો.

દર્ચાંજો બધે પાણી પી વીનનું

બધો ફાયદો પોતાને જ મળે એવી લાલચ રાખવી.

દેગમેં મથો

જરૂરત કરતાં અનેકગણું વધુ હોવું.

દુનિયા અંધી નેહ પણ બેવક્ફ આય

સમજુ માણસ ઘણી વખતે ગંભીર ભૂલ કરી નાખે.

ધર્તીંગ પીચ્ચા દોઢસો

પોલમ પોલ.

ધુક્કો ગીની વાંસે

પીછો ન છોડનાર માટે વપરાય છે.

ધણી ઉગરજો ઢોર

રોકટોક વગર કામ કરનાર.

દાંદ્યો થોડો ને ધમાલ ઝીઝી ખોટી માથાઝીંક કરવી.

ધર્મજે કમમેં ઢીલ ના વોચ

સારા કામમાં વિલંબ ન કરવી

જોઈએ.

હથ ધુઈને વાસે પુનું કોઈ કામ કે વસ્તુની પાછળ

પડી જવું.

હજામત બનાય ડીની નુકસાનીમાં ઉતારી દેવું.

હલ્કો હજામ

પેટમાં વાત ન ટકાવી રાખનાર માણસ.

હાર્યોં જુગારી બમણું રમે

વધુ લાલચ કરનાર નુકસાન ભોગવે.

હફા વીઝીને કુત્તા લળાયના વાત ઉપજાવી કાઢી

એકબીજાને લડાવવું.

હકળેજા બો કરનાર

કામ બગાડી નાખનાર માટે વપરાય છે.

હથેળીમેં ચાંદ કેખાળનું

બેવકૂફ બનાવવું.

હથમેં ડીચો ગીનીને વાચમેં

. અહાીબુજીને નુકસાનમાં

ઉતરવું.

હળકાચે કુત્તેજી લાળ

પણ ખરાબ

બુરા માણસની સોબત પણ બુરી.

હાથીજા દંન ખેણજા બીચા

ने डेખाળनन्न બीया

કહેવું કંઇક ને કરવું કંઇ બીજું.

હલ્કે કે હવાલદારી

મીળી આચ.

નાલાચકના હાથમાં સત્તા આવી જવી.

..... હક્કજો પચે હરામજો ના પચે

હલાલનું હજમ થાય હરામનું નહિ.

નવીન વ્યાખ્યાઓ

વારસોઃ વરસાદ વિના પાકેલો મોલ.

પોલિસઃ કુતરા ભસાવવાનું સાધન.

લાંચઃ ધાર્યું કામ કરાવવાની જડીબુકી

કુકડોઃ ચાવી વિનાનું આલામં

સેન્સર બોર્ડઃ કચકડાનું કતલખાનું.

સગાઈ: શાદીનું એડવાન્સ બુકીંગ

(୬) ଏହା ଆଖନ- ଆଞ୍ଚାର୍ୟ-2୦୧୦

સ્વચ્છ પાણી પસંદ કરતી પલ્લા મચ્છીને પીરના આશિર્વાદ





સિંધની નદીઓમાંથી મળી આવતી અનેક नसदनी માછલીઓમાંથી પલ્લા (હીલ્સા)ના નામે ઓળખાતી 3પેરી રંગની માછલીને સૌથી સ્વાદિષ્ટ ગણવામાં આવે છે અને તેમાં કાંટાની ભરમાર હોવા છતાં શોખીનો તેને હોંશે હોંશે ખાતા હોય છે. કરાચીથી હેદ્રાબાદ જતાં જામશશોરોના પુલ નજીક મછિચારા પલ્લા માછલીના ટોકરાં લઈને બેઠા હોય છે અને ત્યાં તો ताल ताल माछली तजीने ખવડાવતા સ્ટોલ પણ ઘણાં છે. શોખીનો તળેલી પલ્લા મચકી ખાવા કરાચીથી પણ જામશોરો જતા હોય .63

આ પલ્લા મચ્છી વિષે સ્થાનિક મછીચારા જણાવે છે કે સમુદ્રી પલ્લા કરતાં પણ સિંધુ નદીનો પલ્લો વધુ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. આ માછલીને ઠંકુ પાણી ફાવતું નથી એટલે ગરમી ઘટવાની શરૂઆત થતાં વેંત તે ધીમે ધીમે દરિયાદેવ તરફ સરકતી જાય છે અને શિયાળુ આવતા સમુદ્રમાં રહેવા ચાલી જાય છે. મોટેભાગે જુન, જુલાઈ અને ઓગસ્ટના ત્રણ મહિનામાં પલ્લો વધુ પકડાય છે. પલ્લો પકડાઈ ગયા પછી વધુ વખત પાણી વગર જીવી શકતો નથી. જાળમાં ફસાતાં કે માછીમારના હાથમાં પડતાં જ તે શ્વાસ છોડી દે છે. તેની નાજુક પ્રકૃતિને કારણે સિંધમાં પલ્લા મચ્છીનું ફાર્મીંગ કરાતું નથી. તેના ઈંડા પણ એટલા નાજુક હોય છે તેને ફીશ ફાર્મ સુધી પહોંચાડવા પણ મુશ્કેલ થઈ પડે છે. આ માછલીને સ્વચ્છ પાણીમાં રહેવાની ટેવ છે એટલે સિંધુ નદીના અમુક ભાગોમાં જ તે દેખાય છે.

सिंधना स्थानिड माछीमारोमां पत्ता मरछी विषे अनेड मान्यताओ प्रयतित छे. मोटी ઉमरना मछीयारा જણાવે छे डे सिंधु नही पर केरेले कंधाया नहोता એ જमानामां सिंधु नहीना पत्तां छेड सफ्पर सुधी पढोंची જतां हता. सफ्पर नजुड जुणुरना डिस्तामां हजरत ज्याल जीजर नामना सुड़ी संतनो मजार छे. तेमने जिन्हा पीर पए अएवामां આવે છે. માછીમારોના જણાવ્યા મજબ પલ્લા મચ્છી એ વિસ્તારના પાણીમાં પહોંચ્યા પછી પોતાનો રંગ लहते छे अने तेने ज्यान्य जीभरनी દુઆ પ્રાપ્ત હોય છે. આજે પણ અનેક માછીમારો ખ્વાજા પીરના મઝારથી लोलाननी राज लावीने नहीमां વિખેરી દે છે. તેમના કહેવા મુજબ એનાથી આગલી સીઝનમાં પલ્લા મચ્છીની સંતત્તિમાં વધારો થાય છે. મઝારમાં ખ્વાજા પીરનો મહિમા વર્ણવતા એક ચિત્રકામમાં લીલા रंगना अल्लामां सक्क ज्याका ખીઝરને પલ્લા મચ્છીની પીઠ પર સવારી કરીને નદીમાં પાણીની સપાટી પર સેર કરતા દેખાડાયા છે એટલે જ જ્યારે સિંધુ નદીમાં ઘેલું પૂર આવે છે તો માછીમારો તેને ખ્વાજા પીરના શ્રાપ સાથે જોડી દે છે.



"ભાઈ ! પ૦૦ના ખુલ્લા નથી ! માફ કરો." "લાવો સાહેબ, ફીકર ન કરો, હું છુઢા આપું છું. પ૦૦ના જોવે છે કે ૧૦૦૦ના ?

સિંધમાં ઘારો મુકામે WMO અને શેખાની ફાઉન્ડેશને સ્થાપેલ ફલડ રીલીફ કેમ્પની કામગીરી

-જુલાઈ ૨૦૧૦માં ઉમટી આવેલા પ્રચંડ પૂરમાં પાણીના રેલાં દેશના ચારે પ્રાંતો પર કરી વળ્યા. યનોએ જાહેર કરેલા અંદાજા અનુસાર બે કરોડથી વધુ પાકિસ્તાનીઓ પૂરની અસરમાં આવ્યા છે. વર્લ્ડ મેમણ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WMO)એ ૨૦૦૫માં પાકિસ્તાનના ભયાનક ભુકંપ વખતે પણ અસરગ્રસ્તોની મદદ માટે ભગીરથ સહાયકાર્ય કર્યું હતું. આ વખતે પૂર પ્રસંગે पण (WMO) तरत ४ सिडय બની ગઈ હતી અને કરાચી ખાતે બેઝ કેમ્પ સાથે પાકિસ્તાન કલડ રીલીક કંડની સ્થાપના કરી હતી. સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦ સુધીમાં આ કંડમાં ત્રણ લાખ અમેરિકન ડોલરની કિંમતની રાહત સામગ્રી એકઠી થઇ હતી જે દેશની જુદી જુદી રાહત છાવણીઅઓમાં પહોંચાડી દેવાઈ હતી.

WMOએ પોતાની રાહત છાવણી સંસ્થાના ટ્રસ્ટી અબુબકર શેખાની (મરહુમ)ના વારસદારોના સહકારથી સ્થાપી હતી જ્યાં WMOના આસીસ્ટન્ટ સેક્રેટરી જનરલ અને ફલડ રીલલીફ કમિટીના ચેરમેન એચ. એચ. શેહઝાદ તથા શેખાની ફાઉન્ડેશનના કન્વીનર મહેમુદ શેખાનીની અંગત દેખરેખ હેઠળ રાતદિન રાહતકામ ચાલી રહ્યું છે. પહેલાં તો આ રાહત છાવણી સિંધના ઉપરના ભાગમાં સખ્ખર नशुड स्थपार्ध ढती पण जाहमां पूरना रेला नीयाणवाजा लागमां आगज वधतां सफ्जरनी छावणीने डोटरी जाते अने छेवटे ठडा नशुड घारो जाते जसेडवामां आवी ढती. लश्डरी हज पाडिस्तान रेन्क्सें आ तजड़े लरपूर सढडार डयों ढतो. पाडिस्तान जातेना सढ़िटी राक्टूतोओ डोटरी जातेनी WMOनी राढत छावणीनी मुलाडात लर्छने डामगीरीने जिरहावी ढती अने पूरपीडीतो वथ्ये लेंटोनी व्हेंयणी डरी ढती.

WMOના પાકિસ્તાન ચેપ્ટરના ઓહદેદારોએ વિદેશીઓ સહિતની પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ સાથે ૧૯ સપ્ટેમ્બરના રોજ ઘારો ખાતેના રીલીફ કેમ્પની મુલાકાત લીધી હતી. સંસ્થાની લેકીઝ વિંગના ચેરપર્સન મેડમ હવા અબ્દુલ્લાહ સહિતની મહિલા સભ્યો પણ સાથે આવી હતી. કરાચીથી ૭૬ કિલોમીટર જેટલા અંતરે આવેલા કેમ્પ સુધી પહોંચવામાં દોઢ કલાક લાગે છે.

આ ફલડ રીલીફ કેમ્પ મૂળ તો એક નાનકડું તંબુ ગામ છે જેમાં ૨૨૦ તંબુઓમાં ૨૨૦ અસરગ્રસ્ત કુટુંબોના લગભગ ૧૪૦૦ સભ્યોને આશ્રય ઉપરાંત ખોરાક, કપડાં, દવાઓ અને તબીબી સારવાર સહિતની તમામ મૂળભૂત સગવડો પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે. ૪૦ જેટલા બિનમુસ્લિમ પરિવારોની

પણ તેમના માટે અલગ રચાચેલા કંડમાંથી સારસંભાળ રખાઈ રહી છે. રાહત છાવણીમાં અઠવાડિક ભૂમિકાએ આટા, દાળ, ચાવલ, તેલ, મસાલા, સૂકું દૂધ, પીવાનું સાફ પાણી તથા બીજી જરૂરી ચીજોના કૂડ પેકેટો આપવામાં આવે છે. ચુલાં અને વાસણો સહિતની બીજા સામગ્રી પહેલેથી જ આપી દેવાઈ છે. ઘરબાર છોડીને બેહાલ દશામાં પડેલા આ અસરગ્રસ્તોને પૂરતાં કપડાં પણ અપાચા છે. ઈંદુલ ફિત્રના અવસરે પણ આ લોકોને અને ખાસ કરીને બાળકોને નવા વસ્ત્રો, જુતાં-ચપ્પલ, મહેંદી, ચુડીઓ અને રોકડ ઇદી સહિતની ભેટો વ્હેંચવામાં આવી હતી.

રાહત છાવણીમાં ડોકટરો અને નર્સો ચોવીસે કલાક સેવા આપે છે અને જરૂર પડતાં દર્દીને કરાચીની હોસ્પિટલમાં લઇ જવાય છે. કેમ્પથી નજીક જ મસ્જિદે અબુબકર નામે એક કાચમી મસ્જિદ પણ બંધાવી દેવાઇ છે જ્યાં રાહતકામ પૂરૂં થયા બાદ પણ અતરાફના ગામવાસીઓ ઇબાદત કરી શકશે.

राहतहाम पूर्व थया जाह WMO अने शेजानी इाउन्डेशन हरेड पूरपीडीत परिवारना पुनःवसवाट माटे तेमना संजंधित गामोमां तेमना घरोने थयेला नुडसाननी आंडणी डरीने व्यक्तिगत धोरणे हरेड डुटुंजने इरी आजाह डरवानी योजना धरावे छे.

मुभव सभागार

-ટ્રાવેલ એજન્ટસ એસોસીએશન ઓફ પાકિસ્તાનની ચુંટણીઓમાં જનાબ ચાહચા મોહંમદ પોલાણીને સિદીક એસોસીએશનના ચેરમેન તરીકે ચૂંટી લેવામાં આવ્યા હતા.

-જનાબ મોહંમદ અતીક અબ્દુલ શકુર દાદા કરાથી કોટન એસોસીએશનના ચેરમેનપદે ચંટાઈ આવ્યા હતા.

–પાકિસ્તાન કેમીકલ્સ એન્ડ ડાઈઝ મર્ચન્ટસ એસોસીએશને જનાબ મોહંમદ હારૂન અગરને સંસ્થાના ચેરમેન તરીકે ચૂંટી લીધા હતા.

> હામીદ ગરીબનો ह्: भह छन्ते डाल

-4152010 મેમણ क्मातना भूतपूर्व प्रमुख अने બિરાદરીના જાણીતા સખીવજૂદ જનાબ હામીદ આહમદ ગરીબનો શુક્રવાર રજમી સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૦ના કરાચીમાં ઈન્તેકાલ થયો હતો.

भरद्भ ढामीह आढमह ગરીબોની ભલાઈના કામોમાં નોંધપાત્ર કામગીરી બજાવવતા રહેતા édl. કરાચીના નસીરાબાદમાં પીએમજે પ્રોજેકટના કેઝ-ત્રણમાં તેમણે ૫૦ કલેટો અને ફેઝ-ચારમાં ૭૦ ફલેટો ગરીબો માટે બંધાવી આપ્યા હતા. પાકિસ્તાન મેમણ જમાતના આશ્રયે ચાલતા મેડીકલ સેન્ટરને સારા જેવો કાળો आपवा सहित ४३२तमंहोनी महहना अनेड डामोमां तेमनो ફાળો રહ્યો હતો. મરહુમે પાકિસ્તાન મેમણ જમાતમાં ૧૯૮૮થી ૧૯૯૮ વચ્ચેના ૧૦ વર્ષના ગાળામાં પ્રમુખ તરીકે કિંમતી સેવાઓ આપી હતી. મેમણ મેડીકલ સોસાચટીમાં પણ તેઓ ૧૯૯૦-૯૧ના વર્ષ માટે પ્રમુખ રહ્યા હતા.

ભારતી વિદ્યાપીઠે છે મેમણ વેપારીઓને અર્પણ કરેલી ડોક્ટરેટની પદવી

-ભારતના બે મેમણ વેપારીઓ જનાબ એ. સી. સલીમ અને જનાબ એ. સી. મહેમુદને મેડીકલ એકેડેમી હૈદાબાદ (દખ્ખન)ના ડાયરેકટરોના બોર્ડે ઈન્ટરનેશનલ યુનિવર્સીટી ઓફ ઈન્ડીયાના સહકારથી ડોકટરેટની માનદ પદવીથી નવાજયા છે. ટેડ ਔਰਤ जी अने स એડમીનીસ્ટેશનમાં તેમની ભવ્ય કારકિદીને ધ્યાનમાં લઈને ૧૨મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૦ના ચોજાયેલા समारंभमां जन्नेने आ पहुंची અર્પણ કરાઈ હતી. જનાબ એ. સી. સલીમ અને એ. સી. મહેમૃદ પલ્સીઝ સ્પ્લીટીંગ એન્ડ પ્રોસેસીંગ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ (પ્રાઈવેટ) લીમીટેડના अनुइमे येरमेन अने मेन्छांग ડાયરેક્ટર છે. ૨૦૦૭માં શ્રીલંકામાં સ્થપાચેલી આ કંપની ત્થાં સાપુગાસ્કાન્ડાના ગોનાવાલા વિસ્તારમાં તદ્દન આધ્નિક મશીનરીથી સજજ વિશાળ કેક્ટરી ધરાવે છે. મે-૨૦૦૮થી મે-૨૦૧૦થી સુધીના ગાળામાં કંપનીએ ૬.૨ બીલીયન રૂપિયાની हाणोनी निहास हरीने नेशनव ચેમ્બર ઓક એક્સપોર્ટર્સ ઓક શ્રીલંકાના ૧૮મા વાર્ષિક એવોર્ડ્સ સમારંભમાં નિકાસ બદલ ગોલ્ડ એવોર્ડ પાપ્ત કર્યો હતો.

વીણેલા મોતી

- સાચવવા પડે એ સંબંધો કદી સાચા નથી હોતા, અને જો સંબંધો સાચા હોય તો એને સાચવવા નથી પડતા.
- વ્યવહાર નથી બદાલતા સંજોગો બદલાય છે. માણસ નથી બદલાતા ખાલી તેમના અભિગમ બદલાય છે.
- माशसने साथा स्वइपमां ओजजवो होय तो तेने સત્તાસ્થાને બેસાડો.
- જીવનમાં એટી બધી ભૂલો ન કરવી કે પેન્સિલ પહેલા જ રબર ઘસાઈ જાય!
- જીવનમાં કકત એક સારી વ્યક્તિનો સાથ હોય તો આખી જીંદગી જીવી શકાય છે, પણ કયારેક ફકત એ એક સારી વ્યક્તિની શોધમાં આખી જીંદગી વિતી જાય છે.
- દરેક માણસ પાસે એક એવું મોટું કબ્રસ્તાન હોવું જોઈએ, કે જેમાં એ પોતાના મિત્રોના દોષો દકનાવી શકે.

୬ ୬୬ଟା ଆର୍ଥ− ଆହ୍ୟାକ୍ୟ−2040





میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیو ٹ

آئیےاینا مستقبل سنواریئے

MITI ورلڈمیمن آرگنا ئزیشن کی زبر سربریتی قائم کردہ بین الاقوا می معیار کا تربیتی ادارہ جہاں نوجوا نوں اور کم آمدنی کے حامل خواتین وحضرات کولیل مدت کورسز میں تربیت دی جائے گی جس کے زریعے پیشدوراندتر بیت حاصل کر کے خوشحال زندگی گز ارسکیس کے

كورمز برائے طالبات

وكيشنل كورسز

فائنآرك 台剧斯

فيكسناك إمزائتك

سلاقي اوركتاب

كوكتك اور يبكنك

فيتحاكزهاني

انتيررد يكوريش

ماتصاور شين كالزهائي

يرس كرومظ ميك اب

ٹیکنیکل کور

يو-لي-السروريرك

بالكروون آفس

موبأل فون رسيمر تك

ويب ويوليهيك

كميوفر بارة وتير

كيدور كرأحس ائذ اليستريش

















を見場 كينواز بارادويتر

走行大汉

الاس الالباش

وميعك الكثريش

مومال نون رجيز نگ

過過過過過

Frest

موزوائلا كك

للت للنيش

آ نواليكريش

آثوا نيركنديش 1

ا تومليک

Est in de

بوم UPS امرمت اورتصيب

ى ان جى كت الساليثن اور ثيونك

كيس االكثرك ويلذنك

TIG/CO2

ائِم آئی ٹیآ تی یااٹ نبر 1/8-5T ہیکٹر1-36 ،(سوک سینٹر -3) ہور گی 5 ہرا تی یا کتان - 🛛 فون: ST-1/43/45/46 ،(سوک سینٹر -3) ہور گی 5 ہرا تی یا کتان - 🤻 فون: ST-1/8 ہیکٹر1-35035542/43/45/46 يلى: 021-35035547 - 102 ان کيل: mgmt@wmomiti.com ويب ما کسا: www.wmomiti.com

تموزے سے کارن اقور میں اندے کی سفیدی کمس کرتے ہیں۔ بنالیں اسے بلیک بیڈز کی جگہ لگا کی اور فشک ہونے کے بعد جرود حولیں۔

کھانے کا سوڈا عرق گلب میں کمس کر کے ناک پر لگائیں انگیوں کے پوروں سے ملکے ملکے مساج کریں اور پانچ منٹ کے بعدو عولیں متاثرہ جگہ چک اٹھے گی۔

4444

مندوھونے کے بعد وز خرور استعال کریں اس کے لیے عرق گلاب بھی بہتررے گاس کا اس ساستعال کریں۔

اگرآپ كنقوش موف اور محدى إين لو كيظرى كو پانى كى مدد فق پر در كريئ لو كروس مين موف نقوش مناسب موم كي گ-

سندى پائے كدوران اس ش بوليس كلا باس ك وجه بيندياں آئيں ش چيكونگق بيں ليكن اگر آپ سيندى كئے كدوران ان پرچند قطر كيول ذال ديں گاتواب انس ہوگا۔ خند خند خند

پیاز کی یو ہاتھوں سے جلد کل جائے کے لیے ان پر ہلکا سالیموں لگالیں اور چند لیم ہاتھوں پر لیس پھر ہاتھ دھولیں۔ جیئے تمک دائی میں دو تین لوگ ڈالنے نے تمک فیس مجھ گا۔ اس کے علاوہ جاول کے دائے بھی ڈال دیں۔

يختك جلد كعلاج كيلي مفيدثو كك

اکو خوا تین وحفرات جلد کی تنظی دور کرنے کے لیے مخلف کریس استعال کرتے ہیں۔ ان کے لئے بیڈونکد بہت منید ہے۔ آ دھا کپ دورہ ایالیں اورائے تحوڑی بہت منید ہے۔ آ دھا کپ دورہ ایالیں اورائے تحوڑی آپ ایس ساتھ کے لئے رکھ دیں۔ اس دوران آپ ہا ہے یا تحوں اور چھرے پر دو ٹی کی مددے ہم گرم دورہ سے تا کی ساتھ کے بعد ہم دورہ شعندا ہونے کے لیے مند دھولیں۔ اس کے بعد جو دورہ شعندا ہونے کے لیے رکھا تھا اس کے اور سے بالائی کی تہدا تا رکز چھرے اور باتھوں پر لگا کی ۔ جب فشک ہوجائے تو مند دھولیں

صابن کا استعال ندکریں اور بینتے بھی دو، تین مرتبہ ایسا کریں جلد کی تنظی دور ہوجائے گی۔

معدے کی تیزایت، تاشتے میں وودھ استعمال کریں طبی ماہرین نے معدے میں تیزایت کے مریضوں کوئے کے ناشتے میں پیلوں کا جوئی پینے کے بجائے ملائی کے بغیر دودھ کا مشور و دیا جوزیادہ بہتر ٹابت ہوسکتا ہے ایک برطانو کی بینیورٹی کے ماہرین کی جاری کردہ ر پورٹ میں بتایا گیا کہ جولوگ دودھ کو وزن بڑھنے کے قوف سے ٹیس پینے وہ الظم ہیں حالانکہ سے کیا شے میں دودھ کا استعمال زیادہ فائد ومند ٹابت ہوتا ہے۔ ر پورٹ میں بتایا گیا کہ دودھ پینے اور جوئی پینے والے لوگوں کا جب بلڈ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دودھ کی وجہ ہلڈ پر بیٹر کنٹرول کرنے کامند کرتے بلڈ پر بیٹر کنٹرول کرنے کامند کرتے

بائی بلد پریشر کی صورت بین اپنی میدین کا استعال جاری رکھیں اور تمک و مرض غذاؤں سے پر بیز کریں۔ بلد پریشر کو معول پر رکھنے کے لئے بید شخ استعال کریں۔

البن بالى بلا ريش كے لئے بہت مفيد باس كى پقى سے ايك جواليس اوراس كے چھوٹے جھوٹے كلاے كر كے اليس عنى بيس لپيث كرمج فبار مند كھا كيں۔ اس سے بلا ريش معمول برد ب كارايك جائے كا حى آ لول كا بوس اورايك جائے كا حى شہدكو الجي طرح الاكرمج فبار منداستعال كريں۔

على (يودے) كے چار دور فيم كے دوية مي فيار من چياكر پانى سے كال جائيں اس سے مجى بلذ پريشر نارل رہا۔ كال سے قائدے

جن لوگوں کو میں فکایت ہو کہ ان کے ہاتھ یاؤں ہے آگے گئی محسوس ہوتی ہے کہی ہی خت سے خت سردی ہو بیلوگ یاؤں کھانے کا چرچر من ٹکال کر سوتے ہیں آئیس چاہیے کہ ایک کھانے کا چرچر من گلاب آ دھے گلاس یائی بیس سل کر کے اس میں چینی طاعی اور شخط اکر کے لی لیس ۔ اس یہ شکایت دور ہوجائے گی۔


مسور ہے کمزورہ وں اور دانت کمزورہ وجا کیں آو خشک گلاب کے پھولوں کو پائی میں ابال کر اس سے بار بار کلیاں کریں اس کے علاوہ خشک گلاب کی بتیوں کو باریک چیں کر کپڑے میں ڈال کر چھان لیں اے بخن کے طور پر دوبار دوزاند دانتوں پر بلکے بلکے برش کرتے رہیں ایسا کرنے سے دانتوں کی کمزوری دورہ وجاتی ہوادر منہ ہے اگوار میک بھی ختم ہوجاتی ہے۔

تازہ گلاب میں قبض دور کرنے کی صفت ہوتی ہے جبکہ فتک گلاب سے قبض ہوتا ہے اگر کسی کو قبض کی شکایت ہے تو تازہ گلاب کی چیوں کو دودھ میں ابال کر چھان لیس اور خنشا کرلیس اس کے بعد چیٹی ملاکر شربت کی طرح گھونٹ لے لے کر پی لیس روزانہ کھانے کا ایک تی ضرور چیکس۔

سیب کے چیکئے سے نہایت خوشبودار قبوہ تیار کر سکتے ہیں۔ قبوہ بناتے وقت اس میں سیب کے تعوث سے چیکئے شال کر کے جوش دیں اس میں حسب ضرورت شہد اور کیول کا رس بھی طالس۔ والے تھے میں لذیز قبوہ پوڑھے اور کمزوروں کے لئے فہاے مفیدے۔

ناريل اورسرك بالول كى چك

باربارشی و کرنے ہے بالوں کی قدرتی چک فتم ہوجاتی ہے ہے والی انابہت شکل ہوتا ہے شیم بواور کنڈیشنز بالوں کو قعی طور پر الوں کا محت میں کوئی بہتری ٹیس لا تکتے ۔ دھوپ، شیم کا زیادہ استعمال اور ڈرائز ہے بال خنگ کرنے کا دیادہ استعمال اور ڈرائز ہے بال خنگ ہیں ہے کہ وہ ہوجاتے ہیں ہے کہ وہ ہوجاتے ہیں ہے کہ وہ استعمال کرنا ہے دائیس لانے کے لئے نار بل اور سرے کا استعمال کرنا ہے دائیس لانے کے لئے نار بل اور سرے کا استعمال کرنا ہے دائیس لانے کے لئے نار بل اور سرے کا استعمال کرنا ہے دائیس لانے کے لئے نار بل اور سرے کا استعمال کرنا ہے دائیس اور ہے اور استعمال کرنا کئی جو استعمال کرنا کی بیش میں ایک ہول ہے گئی جائے میں کا کھی گؤشش کریں کہ تیل بالوں کی بیروں کئی جائے میں کا اور ساتھ میں ایک کئی جائے میں کرم کریں اور اس میں ایک بیائی سفید سرکہ ملادیں اس کے بیائی تا ہے۔ والیس اور بھر بال شندے بائی سے دوسلے رائیس تا ہے۔ والیس اور بھر بال شندے بائی سے دوسلے اور میں تا ہے۔ والیس انس بالیس بائیس کے بلکہ اور طاقت بھی دولیس آخر بیا آگی۔ اور طاقت بھی دولیس آخر بیا آگی ہے۔ اور طاقت بھی دولیس آخر بیا آگی ہے۔ اور طاقت بھی دولیس آخر بیا آگی ہے۔ اور طاقت بھی دولیس آخر بیا آگی ہے۔



كرم كے قابل

کرم دفوادش کے قابل کہاں ہیں ہم یہ تیرائی کرم ہاں قابل
گفتا ہے بھینا برائی تو ایک بہت بری چیز ہے کین گنا ہوں ہے
پیایا تو اس قابل جھتا ہے
پیانی اس قابل جھتا ہے
بیدے ہادب ہیں ہمیں ادب کر نافیس آتا تو تی ہے جو گنہا رکو
بیدی تو تی تو ہے جو ہمیں عزت کے قابل مجتنا ہے
دنیا ایک جہنم ہے جس میں ہم حریض لوگ تو بی آق ہمیں مجوب کا
اس میں تو تی ہو تا تو میں دخمن چھے ہوئے ہیں بہت مران
میں جستا ہے گردوفواح میں دخمن چھے ہوئے ہیں بہت مران
میں بہت ہیں گناہ کو بیش مرامی بین ہم اور ہم
مارہ میں بہت ہیں گناہ کو بھش کر ہمیں جنت کے قابل جھتا ہے
مارہ بھی بہت ہیں گناہ کو بھش کر ہمیں جنت کے قابل جھتا ہے
مارہ بھی بہت ہیں گناہ کو بھش کر ہمیں جنت کے قابل جھتا ہے
مارہ بھی بہت ہیں گناہ کو بھش کر ہمیں جنت کے قابل جھتا ہے
مارہ بھی بہت ہیں گناہ کو بھش کر ہمیں جنت کے قابل جھتا ہے

خوشخري

ایک صاحب نجوی کو ہاتھ دکھانے گئے۔ نجوی نے ان کا ہاتھ د کیوکرکہا''آپکا بڑھا پانہا ہے۔ سکون دآ رام سے گزرےگا۔'' صاحب خوش ہوتے ہوئے بولے''نو کیا دائق میری بیگم جھے سے پہلے اس جہاں سے کوچ کرجائے گی؟

(سادىيىمن)

بہادری

دوفوجی آپس میں از پڑے، دولوں کواضر کے سامنے پائی کیا گیا۔ اس نے دولوں کا کورٹ مارشل کرتے ہوئے کیا۔ '' دفع ہوجاؤ۔ ہمیں اڑنے والے سپائی ٹیس چا کمیں۔ (حرفان میسن)

89"

کوئی پیدن فیرش ہےدو۔۔۔۔ ناجائے کس کے گھر بش ہےدہ

اس کی جدائی کا سبب فقط بیں نہیں سوامیرے جائے کس کس نظریش ہے وہ فقط انتائی مطوم ہوجائے فرخ اسے ل گئی منزل بیاسفریش ہے وہ شابید زیانے کے جمیلوں بیس گھر اہو ہوگا گلوں ساریا اب بھی فخریش ہے وہ

(منيرسوريا)

المحجى نبيس لكتيس

جھے بے بھٹم ہے آوازیں اچھی ٹیس گلتیں طاری ہوجا کیں صدا کیں اچھی ٹیس گلتیں آ محصوں سے بیاں ہوجا کیں جو دل کی آجیں اچھی ٹیس گلتیں نے خیالی سے آجائے خیال کی کا تو اس محص کی اوا کیں اچھی ٹیس گلتیں بھیردیں ہرچیز کواک بل میں وہ بے پروای ہوا کیں اچھی ٹیس گلتیں

(عارف بالاكام والا)

(حسين شيرواني)

چیل

ایک رات کی موٹی طورت کے گھر چور کھس آیا۔ وہ چوری کرکے واپس جانے لگا تو طورت کی آگھ کا اور وہ چورکو پکڑنے کے لیے اس کے پیچیے لیکی۔ چور گھراہٹ کے مارے کر پڑا تو وہ موٹی طورت چور کی کمر پر کھڑی ہوگئی اور شو ہر سے کہا۔
"جلدی سے تھانے جا کر پولیس کو بلالا ؤ۔"
شوہر کافی ویر چیل طاش کرنے کے بعد بولا" بیکم ! میری چیل فیس اردی۔"
فیس ال ردی۔"
"اللہ کے بندے! میری چیل ماکن کرجلدی سے جاؤ۔" چورئے بلیا تے ہوئے کہا۔

1.....

خود پرتی انسان کی فطرت کا جزو ہے۔ ہرآ دی سکھ جاہتا ہے مگر سب کی جاہت کا انداز جدا ہے۔ کسی کودولت پس سکھ دکھائی ویتا ہے۔ کوئی شراب و کماب کی ترقک پی سکھ پاتا ہے۔ پکھا ہے ہیں جو سکھ کی مورت کو رہے ہیں۔ ایسے بھی جی جنہیں انسانیت کے لئے قربانیاں وے کر سکھ ملتا

ہے۔ تمریکھ ہرایک جا ہتا ہے۔

(انتازاه)

خیالات کے جمرو کے سے

1۔جوہرونت کھوے دکھایتیں کرتار ہتا ہے اس کی تصبیتیں پڑھ جاتی ہیں اور جس کا وعاوّں پرے یقین اٹھ جائے وو مایوی کی ولدل شن جنس جاتا ہے۔

2۔والدین جاری روح کا حصہ بیں اور ہم اپنے والدین کے وجود کا حصہ ہیں۔

3- باملاحیت لوگ آخریف سیختای نیس موت_

4۔اولا دے د کھ والدین کی روح کوزخی کرویتے ہیں۔

5۔اس محبت کی پاسداری شرور کروجو خدا کوتمباری ذات ہے۔ ہے۔

6۔ اگر آپ اینا اهناد بحال رکھنا جاہیے ہیں تو پھر لوگوں پر ضرورت سے زیادہ اعناد شکریں۔

7۔ جس خفس کواس کا اخلاق باد قار نہ بنا سکا تواس کورو پیرپیساور حسب دنسب کچھ فائدہ نددےگا۔

8 فی کا دوجس میں آپ کا رجوع اللہ پاک کی طرف ہوجائے خوشی کے اس لمحے سے ہزار درج بہتر ہے کہ جس میں آپ اپنے خالق کو بھول جا کمیں۔

9 فوشیاں اپنے مقدروں سے لمتی ہیں ندسے بھیک ما تھے۔ 10 - آدی کا انتخاب بھی اس کا مقدر ہوتا ہے۔

(زينت إشم)

اجارگوشت



171 1/2 کلو كوشت 1/2 کپ وعى 3762161 دحتيايا ؤؤر 2,62 61/4 بلدى يادور 2,6261 けらしるりしし 2,6261 ادرک پیپ 2,6261 لهبن پييٹ حبذائقه يدى برى مريس 2410 كلوتجي 28/52/1 ميتنى داند 3,82 61/2 E26262 تابت مفيدزيره J 1/2 تيل 35264 فمالز كاينيث

كوشت كودى ، دهنيا ياؤ در بلدى ياؤ زر الال مرج ياؤ در اورك بهن پيث اورتمك لكاكر 1 محتشر كاوس كلونى ميتنى داند سفيدزيره مونا موثا كوث لين - برى مرى يرك لكاكريه معالى بودي - تل كرم كري ال ش كوشت الكر محون لين اس ك بعد يانى وال كركوشت كو كلف دي جب كوشت كل جائے تو تماٹر کا پیسٹ ڈال کر محون لیں اس کے بعد تھوڑا یائی ڈالیں اور ہری مرى دال كروم يدكوري - تياروجائية كرم كرم مروكري-

باتھ کا کتا ہوا تیرایک کلو، بیاز دوعدد (آلمیت کی طرح کل مسکر ایسی قیم حسب ذاكته برادهنيا آدى گذى برى مرى چه عدد كى بوكى، مُمَاثر جارعدو (باريك كفيهوك) وهنيا ثابت ايك جائكا جي مزيره ايك جائ كافي الوكك آكل ايك كي-

ہے کودھو کراچی طرح فکل کرلیں اس کے بعد ایک پھیلی میں يل كرم كر ك تمام اشياء اس من وال كرورمياني آ في يرجون لين، جب جيل او يرآجا ع الواس يرجرا دهنيا و ال كريائج منث ك لئ وم يروكدوي، تيدتيار بكرم نان كرماتدوش فرمائي - شائسة جيل ماجي

MEMON ALAM . OCTOBER 2010





دسترخوان



مغز گائے کا ایک عدویا بکری کے جھ عدد، بیا ہوا ادرک ولیسن آیک کھانے کا چیج، ممك حسب ذا كقد، يسى موكى لال مرج أيك عائع مجع ، يها مواد هنا ايك عائ كا في بلدى لهى مولى أوها ما يكا في بامواكرم مصالحالك ماي كافي فماثر (باریک کے ہوئے) تمن سے جارعدد، ہری مرے (باریک کتری ہوئی) تمن ے جارعدد، برادهنیا (باریک کاموا) آدمیشی، کوکگ آک آدمی بیال-

مغركو كحدد ير شف يانى شركيس بحراطقياط عداديركى جعلى اتاردي توبد يورى نکل آئے گی اور مفر عمل طور برصاف ہوجائے گا۔ ٹابت مفرض آ دھی پیائی پائی اور بلدى ۋال كربكى آغى يريكنے دين، ورميان ش ايك مرتبدالث بلث كريس-جب یانی خنک ہوجائے تو چولیے سے اتار کر شندا کرلیں۔ کر حالی می کوکٹ آئل ڈال کرورمیانی آٹے پرووے تین منٹ گرم کریں ،ادرک لیسن ڈال کرایک منت فرائی کریں محرلال مرچ اور بیا ہوا وحنیا ڈالیں اور ڈراسا یانی کا چینٹاوے کر بھون لیں جب خوشبوآ نے گلے تو مغزے چھوٹے چھوٹے مکڑے ڈال ویں، بلکا سا بھون کر گرم مصالحہ اور ہری مرجیس ڈالیس کے ہوئے ثماثر ڈال کر آئج ہلی کرے وظن والے دیں۔ یا فی سات مندوم پرد کا کر ہرادھنیا چیزک کرا تارلیں ۔ کر اگرم چیاتی کے ساتھ پیش کریں۔ 21,30

برے کی دان ابت (چھوٹے سائزکی) ایک عدوء سرکدایک یالی، اورک پسی مولی 25 گرام بلین بیا موا دس گرام، کالی مرج پي مول 25 كرام، ممك حسب ذا تقد كوكك آئل يا بناسیتی حسب ضرورت.

مرے کی مان کو دھوکر کی کانے کی مددے اچھی طرح کود لیں کدکوئی حصہ بچا ہوا شرہ جائے۔ کہی ہوئی ادرک بہن ممک اور کالی مرج کواچھی طرح ملا کرمرے میں شامل کردیں اور ب آميزه خوب الحيمي طرح بكرے كى دان يردونوں طرف لكادي تاكمصالحدي بس جائداب اے دو كھنے كے لئے فرت ك میں رکھ دیں۔ کی بوے سائز کے دیکھے میں ران کورکھ کر بقیہ مصالح بھی ڈال دیں اور دو ہے تین پیالی پانی ڈال کر ہلکی آ کچے پر ران کو بلٹ کر دونوں طرف سے گالیں۔ گوشت گلنے لگے اور یانی خٹک ہوجائے تو کسی تھلے منہ کے دیکھیے میں کو کگ آئل یا بنامیتی کو تیز گرم کر کے ران کوفرائی کرلیں اور سفری موتے ہے الك كے بعداس ير ليموں كارى نجو و كروش كريں۔

قراة لعين الوبكر



برز دلی: اعتماداور بلندخو صلے سے اس کا خاتمہ ممکن ہے

لطيدحبيب

سيل چوناسا تفااوراس كى بے ضرر شرارتی سب كوبہت پندآتی تھيں۔ جو بھی اس سے ملتا اس كى معصوميت سے ضرور متاثر ہوتا اور فورا دوتی بھی كرليتا۔ آج سيل بہت خوش تفااس كے ماموں بيرون ملك سے والپس انثريا آرب شخے۔ سيل كى ان سے بہت دوتی تقی۔ وہ اپنے ماموں كا لا ڈلا تھا۔ وہ اس كے ليے نئے اور خوبصورت تھلونے بھی لا ڈلا تھا۔ وہ اس كے ليے نئے اور خوبصورت تھلونے بھی لا تے تھے۔ چاكليث اسے زيادہ پندنہيں تھی كونكدا سے معلوم تھا كہ زيادہ چاكليث كھانے سے دانت خراب موساتے ہیں۔

سہیل بیں بس ایک یہی خرائی تھی کہ وہ ہر چیز ہے بہت جلدی خوف زدہ ہوجا تا تھا۔ سہیل کی اس عادت کی وجہ ہے ہم جماعت بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ وہ اکثر اے ڈرادھ کا کر اس کا لیچ بکس کھا جاتے تھے اور وہ صرف دیکھیارہ جا تا تھا۔ اب سہیل نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضروران لؤکوں کی شکایت اب مامول ہے کرے گا۔ آئ بھی وہ صبح سویرے اٹھ گیا کیونکہ اس کے مامول آرہے تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ آئیس لینے ایئر پورٹ پہنچ گیا موں سے ل کراہے بہت خوثی ہوئی اور وہ تمام راستے ان سے باتیں کرتا رہا۔ مامول نے

اے کھلونے دیے جنہیں دیکھ کروہ بہت خوش ہوا۔
اگلے دن وہ اسکول گیا لیکن جب واپس آیا تو خاموش
خاموش قعا۔ ماموں نے اے اداس دیکھ کر وجہ پوچھی تو اس
نے بتایا کہ میری جماعت میں چند بگڑے ہوئے لاکے ہیں
اوروہ اکثر جھے تنگ کرتے ہیں۔ میرا کھانا بھی کھا جاتے ہیں
اور میں کی سے شکایت بھی نہیں کر پاتا۔ ماموں نے اس
اور میں کی سے شکایت بھی نہیں کر پاتا۔ ماموں نے اس
پیارے دلا سدد ہے ہوئے کہا کہ اگرتم اعتماد اور حوصلے سے
کام لوتو ان لڑکوں کا مقابلہ کر سے ہوکیونکہ وہ صرف تبہارے
ڈرنے کی وجہ سے تیز بنتے ہیں بس تم ہمت کرو پھرد کھنا وہ
کس طرح سید ھے ہوتے ہیں۔

ماموں کی باتوں نے سہیل پر بہت گہرااثر ڈالاگر بیاثر محض وقتی تھا۔ الگے دن جب وہ لا کے سہیل کے سائے آئے تو وہ گھبرا گیا اور آئیس کچھ نہ کہد سکا۔ اب سیل نے سوچا کہ وہ اس بات کا ذکر کئی نے ٹیس کرے گا۔ وہ خاموثی ہا مول ماموں کے پاس جا کر کمرے ہیں بیٹھ گیا۔ اس کے ماموں اپنا لپندیدہ پروگرام ریسلنگ و کھورہ سے ہے۔ سیل نے آئ کہا مرتبہ اتن دلچیں سے بید پروگرام دیکھا تھا۔ اسے ریسلنگ و کھونے ہیں بہت لطف آیا۔ اس نے اپنے ماموں ریسلنگ و کھونے ہیں بہت لطف آیا۔ اس نے اپنے ماموں سے بیو چھاد ماموں سے کیسا کھیل ہے؟''

لطيفي

ایک آ دمی مست سڑک پر پڑا تھا۔ تب ہی ایک پولیس والے نے کہا کہ یہاں کیوں کھڑاہے؟ وہ خض بولا: اس وقت ساری دنیا میری آ تھوں کے سامنے گھوم رہی ہے اپنا گھر آتے ہی گھس جاؤ تگا۔

> مد مدهد اسحاق: کہویار!تم نے امتحان کی تیاری ممل کر لی۔

> > الطاف: ہاں ہالکل۔ اسحاق: کیا کیا تیاری کی۔

، عن بی جا جا ہوں ں۔ الطاف: دو منے سوٹ اور جوٹوں کے جار جوڑے بنوالیے ہیں۔ محمد اسحاق احمد احمد یورہ کالونی نظام آیا د۔

استاد: بنافة2006ء كے بعد كيا ہوگا۔؟ شاگرد: سر2006ء ہوگا جس ميں آپ كی تو كرى ختم ہوجائے

مال: شمیدرید کی کیول مرکل ۲۰ شمید: میں نے بلی کونهلا کرنچوژویا تھا۔ مینو مینو مینو مینو

ایک صاحب ڈینے مار رہے تھے میں ہمیشہ دوڑ میں پہلانمبر لاتا ہوں ان کے دوست نے کہا ٹھیک ہے آپ وہ لال لائٹ چھوکر آ جا کیں، تین دن کے بعد وہ صاحب اپنے دوست کے گھر آئے گیڑے پھٹے ہوئے، ہاتھ پاؤں دھول میں الے ہوئے، آتے ہی اپنے دوست پر برس پڑے کہ یار تو نے جھے ٹرک کی لال لائٹ کے پیچھے دوڑا دیا۔

تماشائی! اچھاتویہ ہوہ خوفتاک اور دہشت ناک تصویر جوآپ نے بنائی ہے۔

مصور: معاف يجيئ گاء آپ آئينے كے سامنے كورے ہيں۔ معشر العابدين، ثنا پرائرى اسكول، نائد يڑ۔

प्रथम

ایک موشرسائکل پرتین آ دی بیشے جارہے تنے رائے میں ایک پولیس والے نے ان کو پکڑ لیا اور پوچھا'' ایک موشرسائکل پرتم تین سوار کیوں ہو''

ایک نے جواب دیا'' ہمارا چوفقاسائقی اپنے گاؤں گیا ہوا ہے۔'' سید وہاج ،سید اسلم ، مجھ عمر الدین ،مجھ اولیں ، شخ احمد ، شخ اظہر ، گورنمنٹ جونیئر کالج تصینہ۔

ثمدنه فكور

شیطانی کام

ويماخر

کی وادت ہوتی ہے، بحری مجلس میں بیٹھ کھسر پھسر کرتے ہیں۔ایک دوسرے کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں یا ایک آ دی دوسرے کو محفل سے تکال کر ایک طرف لے جاتا ہے اور کانا پھوی شروع کر دیتا ہے۔ بیطریقہ آ داب محفل کے خلاف ہے۔ عام طور پر ان مواقع پر کی جانے والی فیبت اور برائی پر مشمل ہوتی ہیں اور دیکھنے والا بھی برامحسوں کرتا ہے۔ بھی وہ سجھتا ہیں اور دیکھنے والا بھی برامحسوں کرتا ہے۔ بھی وہ سجھتا ہیں۔ یوں بد مونوں میرے خلاف کوئی سازش کرد ہے ہیں۔ یوں بدگمانیاں اور تکفیاں پیدا ہونے کا اندیشہوتا

. یمی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اے ایک شیطانی کام قرار دیا ہے جو اہل ایمان کورنجیدہ کرنے کے لیے کیا جاتا

سرگوشیال کرنی ندشروط کردین کیونکداس سے تیسر سے

ہمائی کو تکلیف ہوگ۔ '' ہال اگر کوئی دوسرے کو صدقہ و

خیرات کرنے کی یا کسی ساتھی کے ساتھ بھلائی کرنے کی

تلقین کرنے تو کوئی حرج نہیں بھی لوگوں میں سلح صفائی

کرانے کے لیے بھی پیطریقہ اختیار کیا جا تا ہے۔ قرآن

گیریش ہے: ''جواللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے

گیریش ہے: ''جواللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے

تعالی سنتا اور جانتا ہے، چاہے ہم کتنی خفید اور راز دارائہ

گفتگو کرلیں، وہ ہمارے ایک ایک لفظ کوئن لے گا اور


اگرکوئی بری یا فساد کھیلانے والی بات ہوگی تو ولی ہی

سزادےگا۔

ب- مارے بیارے بی اللے نے فرمایا: "جب تین

آ دى ل كربينے موں تو ايك كوچھوڑ كروہ آپس يس





ایک وقعہ کا ذکر ہے کہ دور پہاڑول میں ایک سربز كمنااورخويصورت جكل قفاجبال تمام جانوراور يرتد يانى خوشی اوراتقاق سے رہے تھے۔ اگر کی کوکوئی تکلیف ہوتی تو سب ممكراس كى تكليف يا يريشاني دوركردية تقداي جنگل یں ایک جروامائے عمن بھل کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے بجال میں ایک بیٹاا وروویٹیال تھیں۔اس کے بیٹے کانام دانیال تهاء أيك بثي كانام كزلداورا يك كانام اقراء تفاروانيال يانجرين جماعت من يزعتا تفاركزلداوراقراء دولول تيسري جماعت يس يوهي تحيل وه تينول شهر ش يزهن جاتے تھاور تينول عل ائی اٹی کاموں میں کملی پوزیش ماسل کرتے تھے۔ وہ سجی بب لائق تھے۔وہ تیوں جب اسكول سے والى آتے تو جگل ي كال وَرْئِ كَ لِيهِ عال تقي جنبين ووشير ل عاكر الله آتے۔وہ تیوں ان بیروں سے اپی شرور تیں اور کی کرتے۔وہ تیوں جگل ہے ککٹویاں بھی لے آتے۔ پھر کز لداور اقراء ل کر کھانا بنا تھی کیونکہان کی مال فوت ہوگئی تھیں اور وہ دونوں جیسے تھے کھانا تیار کر لیتی تھیں۔ای جنگل میں پکھاورلوگ بھی رہے تے اور ایک بہت بوی حولی بھی تھی۔ جس کے بارے میں

لوگول نے مشہور کرر کھا تھا بہال جنول اور چر بلول کا بسیراہے۔ جب كزلداوراقرار وتك يدخر كفي لوانبول في فيعلدكيا كد مكه بھی ہوہم دونوں ان یالوں کوفلط البت کرویں گے۔ چنا تھے ایک دن وه دونول حو لی پین سیس جب وه حو لی ش داخل موئين تؤومان برطرف سناثا تقاراتجي دودونون بيسوج ربي تتين كى" لوگ جود بولتے إلى يمال تك كي يكي تيس ب"ك اٹیں انسانوں کی دلخراش چیٹیں سنائی دیں۔ وہ دونوں ڈرکے مارے بھا کئے تکی تھیں کرا جا تک کزلد کا یاؤں پھل کیا۔ اقراء نے پیچے دیکھا تو وہاں کوئی شقا حین ساری حو بی میں برطرف دهوال تفاادر يزيلول كي چيني سائي دے رہي تھيں۔ ارك مارے اقراء بہت تیزی ہے بھاگتی چلی گئے۔ اچا تک اس کے كيرے جمالاي ش الحد ك اور وين كركر يه بوش بوكلي جب اقراء کو ہوش آیا تورات ہو چکی تھی۔ وہ بدی مشکل ہے کھر يَجْتَى جِهال اس كا يعالى اور باب بهت يريشان بيشے تھے ۔ انہوں نے اس سے کزلد کے بارے میں یو جما تو اقراء نے اقیس سب بنادیا۔ دانیال نے وعدہ کیا کہوہ اٹی جن کوخرور چیز اکر لاتے گا۔ ساری مات وہ جاگتے رہے، دانیال فے اس بڑیل کو

مارنے کے لیے سامان بھی تیار کررکھا تھا۔ اس نے ایک ٹارچ ، ایک کلزی مٹی کا تیل اور ایک ماچس اینے پاس رکھ لی اور مج مونے كا انظاركيا۔ جول على مح موئى۔ دانيال ، اقراء كولےكر حویلی میں داخل ہو کیا۔ وہاں پہلے جیسا سناٹا تھا۔ اس حویلی میں ایک غارتما کمروفغا جہال ہے دھواں لکل رہاتھا۔ وو دونوں وہاں محد انہوں نے اعرجمانا تو دیکھا کہ ایک بہت می ڈراؤنی ج مِن سورى على _ وانيال قي جلدي سے اس لكري يرتبل والا ادراے آگ لگادی۔ اقراء نے بھی ٹارج سنیالی مرجوں ہی آ ك جلى ، يزيل الحد كى اور تيني مارت كى ـ اس كى تكل يى ڈراؤنی تھی۔ بڑے بڑے ناخن، نہایت کی کھدری جلد، سرخ آ تکھیں اور یاؤں النے تھے۔وانیال آ کے پڑھا اور جلتی ہوئی كنزى اس كرجم عدال دى و كيفة بى يرس يعد لحول ش را کو کا ڈھر ہوگئ۔ ج بل کے مرتے ہی دعواں سیلنے لگا اور حویلی ایک میدان می تبدیل ہوگئی جہاں صرف دانیال ، کزلہ اوراقراء کھڑے تھے۔ چروہ سب گھر ملے گئے ان کے میج ملامت اوت آنے بران کے والد بے حد خوش ہوئے۔

پیہ خرچ کرنے کی تربیت کے کہتے ہیں؟

آپسیر مارکیٹ جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اور گھریلواستعمال کی چھوٹی بدی اشیاء کی فہرست بنانے جارہی ہیں اسنے بچوں میں جو بچہ عمر میں بوا ہے اسے کاغذ قلم دے کر گروسری آ عمر ک فهرست بنوايئ اوراسي وفت اس كى ترجيحاً ضرورت اوراصلاح بھی کرتی جائے۔ یوں بچوں کواشیائے خوردونوش کی معلومات بھی حاصل ہوں گی۔ نئے جانے والی اشیاء کا بھی اندازہ ہوگا اور اگرآب تھوك كى ماركيك ميں جارہى بين تو دو ماه كى المحى شاینگ کرنے باند کرنے جیسے پہلو منظر رکھ تیں گی۔اس طرح ایک فائدہ بیجھی ہوگا کہ بچہاشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پرنظر رکھے گا اورا بنی گھریلوضرورت کومسوس کرے گا۔ تواہے بیسے کی قدروقیت کا بھی اندازہ ہوسکے گا۔ اینے گھر کا ایک بجث بنالیجئے بینبیں کہ جب جایا جو جایا بلاضرورت خریدلیا۔ ملک کا بجث بنتا ہے تو ہم سب ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں تا کہ نے لمنكسز ، مراعات اور قيمتوں كے تخينے لگاسكيں اسى طرح گھر كے بجٹ میں بھی خیال رکھئے کہ آ مدنی سے زیادہ اخراجات نہ بڑھ جائیں۔ایک حدیس پیے کا تصرف اور استعال بھنی بنانے کے لئے بچوں میں ہاتھ روک کر پیپہ خرچ کرنے کی عادت کا ڈالنا بہت ضروری ہے۔

پیے کی قدر کس طرح ہوتی ہے؟

ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ دوستوں ، عزیزوں یا بھی خواہوں ہے قرض لینے لگیں تب ہی آپ کو پینے کی قدرہو۔اس فقدرہ قیمت کا اندازہ اس وقت لگائے جب آپ کے پاس پینے کی فراوانی ہو۔ وسائل لامحدود ہوں یا آپ محت شاقہ کے بعد محک محاک رقم پس انداز بھی کر سکتے ہوں بینی آپ کے مالی حالات بہت اجھے ہوں۔ آج آپ یوں بیخ کہ کہی بھی دوشل جیر بچانے پر بچوں کے درمیان مقابلہ رکھنے کہ آپ کا واس بیر بچانے پر بچوں کے درمیان مقابلہ رکھنے کہ آپ کا کس محک محک جو بیکھنے کہ آپ کا کس محک بھی کہ آپ کا کس بھی جو بچاہے ۔ بیا تو کھا سامقابلہ بچوں میں بجٹ کے مطابق محل بھی کے استعال اور بے جا اخراجات نہ کرنے کی تحک کہ دوہ اپنی محل بی اخراجات نہ کرنے کی تحک کہ دوہ اپنی محل ہوں میں بھی کے دوہ اپنی محل کی افراجات اور بچت سے متعلق رپورٹ کھے گا اور بیر ایکارڈ آپ چیک کر وہ اپنی محل کی دوہ اپنی میں بچک کہ چند ہفتوں اور بیر ایکارڈ آپ چیک کر کے صول کر لیس کے کہ چند ہفتوں میں بچک کہ وہ نے لگا اور بیر ایکارڈ آپ چیک کر کے صول کر لیس کے کہ چند ہفتوں میں بچک کہ واپ نے ااب آپ کی ٹریٹ کی ہوئی!

اب موجوده دور میں تقریبا ہر بچے کو جیب خرج کے لئے پکھنہ

پھورقم ملتی ہے۔ بچوں کو سالگرہ اور عیدوں کے مواقع پر ملنے
والی رقم میں جمع ہونی والی رقم بھی اکثر والدین بچوں ہی کے پاس
رکھوا دیتے ہیں۔ پکھ بچے والدین کی اجازت سے پیسا پٹی منشاء
کے مطابق خرج کرنے لکل پڑتے ہیں۔ پکھ کے والدین کو خبر
ہوتی ہے تو وہ بچوں کو بہت کرنے کی تحریک دلاتے ہیں اور بھ
جوتی ہے تو وہ بچ کر کے کی مسلسل تاکید کرتے ہیں اور بھ
کل بچے میل فونز کے کارؤ خریدتے وقت والدین کی طرف
و کیصتے ہیں جبکہ والدین چاہتے ہیں کہ بچدا پنی جیب خرج سے
کارڈ خریدے الدین چاہتے ہیں کہ بچدا پنی جیب خرج سے
کارڈ خریدے الدین جاہتے ہیں کہ بچدا پنی جیب خرج سے
کارڈ خریدے الدین جاہتے ہیں کہ بچدا پنی جیب خرج سے
احتیاطے کارڈ کا استعمال کرے۔

بچوپیسے کا استعال سیھو

یہ ایک تھیجت ہے اور تربیت کا لازی پہلو ہے کہ بچہ صرف کھانے کے لئے جیب خرج استعمال نہ کر لے۔ بہتر ہے کہ وہ کوئی پالتو جانور نہ قرید لے یا پہندیدہ فلم، کوئی کمپیوٹر گیم، کوئی فرائنگ میٹریل یا موسیقی کا سامان یا کوئی کتاب تاہم بیسب فرزائنگ میٹریل با موسیقی کا سامان یا کوئی کتاب تاہم بیسب چیزیں بہت قیمتی تبدیل سوئی چاہئیں۔ اپنا جیب خرج استعمال کرنے کے لئے تھوڑی کی آزادی اعتاد بحال رکھتی ہے۔ اگر



آپ کے بچے نے کوئی کارآ مد چیز پند کر لی ہے کین وہ اس کی ماہنہ بچت ہے کہیں زیادہ ہے تواس کی مالی مدد کی جانی چاہئے۔
جیب خرج کی رقم میں اضافہ ایک برس کی بچت دیکھنے کے بعد
کریں اس سے پہلے کئے جانے والے اضافہ کی صورت میں
اضافہ شدہ رقم خرج کرنے کی گئن بھی بڑھ کئی ہے ممکن ہے بچہ
خود کو کنٹرول نہ کر پائے اور بلا ضرورت کچھ خرید لے۔ بچوں کو
اشیاء کی تعارفی اور رعایتی قیمتوں سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب
دیا کریں۔آپ خود بھی گروسری خریدتے وقت بچت اسکیموں
دیا کریں۔آپ خود بھی گروسری خریدتے وقت بچت اسکیموں
کے اعلانات پرغور کیا کریں اگر مناسب مجھیں تو ایک ہی اشیاء
خریدا کریں۔

بچین سے فلاحی کا موں میں روپیہ خرچ کرنا سیکھئے:

صدقات ، خیرات اور فلاحی امور کے سلسلہ بین رقوم خرج کرنا بروں کا فریضہ تو ہے لیکن بجھداری اس بیں ہے کہ پچین ہی بیں کسی فلاحی ادارے بیں بچوں کو اپنے ہمراہ لے جایا جائے اور ان کے ہاتھوں ہے کس مستحق کی مالی المادیقیتی بناوی جائے۔ کلکتہ بیس ما کیں اپنے بچوں کو مدد فریبا کی مشتریز بیں لے جاتی ہیں اور بیچا پٹی بچتوں بیں ہے چند سکے دان کر کے خیرات کے ملی کا موں بیں بڑر کیک ہوتے ہیں۔

اسلام میں زکوۃ کا نظام غربت کے خاتمے کی ایک بہترین مبیل ہے اور سرقہ ہمیں مصیبتوں اور آزمائٹوں سے نجات دلاتا ہے۔ مارے بچائی جیب فرج، مبینے ملبوسات، کھلونے ،ی ڈیز اور دوسری چیزین فریدنے پرصرف کردیتے ہیں۔

بچول کی بینکنگ بهترین انتخاب:

بچت کو محفوظ ترکرنے کے لئے بینک سے بہتر کوئی جگٹیس یہاں آپ ارادہ کر کے اور تیاری کے بعد جاکر رقم نگلواتے ہیں۔ایک سے دواور دو سے چار مرتبہ منصوبہ بندی کرنے کے بعد اپنے آپ سے بوچھتے ہیں کہ کیا واقعی اس جمع شدہ رقم کوچیٹرنا چاہئے باٹیس؟

بچ کوا میرترین بننے کی تحریک دیں اسے بینک اپنے ہمراہ لے کر جا ئیں اس کی بیلنس شیٹ تو اتر سے نکلوا ئیں اور اس طرح اس کا میلان بنے گا کہ بیسہ بے در لغ خرج کیا تو وہ غریب ہوسکتا ہے۔ سیانے مثال دیتے تھے کہ کھاتے کھاتے کو تئیں بھی خالی ہوجاتے ہیں تو ایسا غلط نہیں کہتے تھے بینک کو بھی مزید بجرانہ جائے اور مسلسل بینے نکلوائے جا ئیں تو ایک دن وہ خالی ہوجائے گا اور کوئی بچہ ایسانہیں جا ہے گاہ



بچو... بیسے درختوں پرہیں اگتے آج بچت کرناسیھو گے تو کل ارب پی بنو گے!

مرف ہے کا شور ہوں سونے کا چی کے کرکوئی

کی اور کی کا افری لکل آئے بید کا شواب تو

کی طرح ہورا ہوتی جاتا ہے۔ و نیاش اخلاقیات کا معیار بدل
چکا ہے اب ید نیا ہیے والوں کی ہے جن کی اپنی الگ منطق ہوتی
ہے سودو د یاں کا ہے معیار ہوتے ہیں۔ ہر دولت مند فض کو
درافت ش مال خوصالی تین گئی کی کوم کے آ قال ش تی
سخت جدد جد کرنی بزتی ہے۔ ایک دلیس سوال یہ ہے کہ

وولت مندول کی اکثریت پیدکو احتیاط سے خرچ کیول کرتی ہے؟ کیا آئیں وقت کی گردش معتبل بین بعادیتی ہے اور وہ وور اند کئی سے کام لیتے ہوئے سوچ بھے کر پہنے کا استعمال کرتے ہیں یا کجوی سے خرچ کرنے میں عافیت محسول کرتے ہیں۔ ہمارا ذاتی خیال ہے کہ پہنے کوسوچ بھے کو فرح کر کر تابی اصل میں واشمندی ہوتی ہے۔ اگر آپ ارب اور کھرب ہی بنتا جا ہے ہیں تو آج بی بنتا جا ہے۔

شروع کرتا ہے ہیں اے ایک ملی بکس یا گلک الاکردے دیا چاہیے تاکہ شوق میں روہیہ بھانا اور سوری بھارکے بعد ضروری کاموں کے فرج کرتا سیکہ جائے۔ دور نہ جا کمیں جب آپ کا بچرکتی سیکہ جائے تہ ہے اے سیکوئن کرتا سکھادیں۔ حال بی میں ایک خبجی ریاست کے تامی گرامی اخبار نے دسائل کی بچیت سے متعلق ایک صحت متدانہ مج چلائی۔ آ ہے ان کے تج بات سے متعلق ایک صحت متدانہ مج چلائی۔ آ ہے ان کے تج بات سے متعلیق ہوتے ہیں۔





طبیعت می فرحت الاتا ہے بیاس کی شدت کم کرتا ہے جن لوگوں کو پیدند بالکل ندآ تا ہو یابہت کم آتا ہوان کے لیے انجیر کا استعال بہت مفید ہے

كالول ك شفا بخش كاشافي مطلق في خود 🗘 ذكركيا ب- المي شم أيك الحجرب برات يدى دائع بكرجس كل كالأرقر آن عيد عن آياب الى كا شفائبش كالوركيا ثبوت روجاتا برجد يرتحقيقات طب إيجى الجركي شفابيش يرم تسليم فيعد كردى بادراس كي افاديت و اجيت كوسليم كرت موت شفائي اثرات والاعل قرارويا ي الجير متعدد وارضات شي فائد ومند باوركي امراض شي هفال تا چرد كمتا ب_ الجيم كواستهال كرنے والے اعساني محكن سے محفوظ رہیجے ہیں۔وور ماضریس تاقع عدا کی فراہی نے محت كاسعياد كراديا بعاورجن أوكل كي محت المحل شهوجهم وبلايتلا مو خون کی مواہے لوگول کے لئے افھر کا استعمال جم ير كوشت إست بحروية ب- بدن كومونا كرف يس كول كال، غذا يادواا تجركا مقابلة يش كرتا مافسوس توبيب كريكول كي غذا أل اجميت سے ناوالليت كى وجدسے لوك دواؤں كے وسي بماكت میں۔اللہ نفاتی نے جس قدر فقرائی مودائی اجزاء سے پہلوں کو بھر رکھا ہے آگر لوگوں کو ان کا کماحق علم جوجائے او لوگ معالج حرات کے یا سمجی ندما کیں۔

برص ایک موذی اور بنیاا مرض بجد فراهشکل سے ی با تا ب

اذا انجر آن پر جو وود سد لکانا ہے، اس کے وو بیار تفر ب

برس کے سفید داخوں پر نگادیا کریں تو برس کے واغ جاتے

رجے ہیں۔ بعض لوگوں کو جم شی النف سقامات پر گلتیاں

موجاتی ہیں۔ بیال تو پر گلتیاں کوئی فضان ٹیس ویتیں ۔ لیکن

نفیاتی انجمن رہتی ہے۔ اگر ان پر بھی میدوود سد لگایا جائے تو سے

گلتیاں تحلیل موجاتی ہیں۔ انجر کا استعال ورم بیس بھی مقید

ہے۔ جگراور تی کاورم بھی کم موجاتا ہے۔

انجرزود مضم ہے۔ کھاتے ی بھی ہوجاتا ہے۔ لبن کشاہے۔
معدورہ توں کے امراض بین بھی نفع بخش ہے۔ خون بھی مرخ
قرات کو بڑھاتا ہے۔ طبیعت بھی فرصت لاتا ہے۔ بیاس کی
شدت کو کم کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پیند بالکل شدا تا ہو یا بہت کم
تا ہوران کے لئے انجر کا استعال بہت مغیر ہے۔ ہم سے
قریر لیے مادے فتح کر کے خوان کوصاف کرنے کی بھی خاصیت
پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو کھانے سے زیان پرخواش ہوجاتی
پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو کھانے سے زیان پرخواش ہوجاتی
مطرح خواش ند ہوگا۔ ورمول کو کھیل کرنے کے لئے ہم او مراق

كوه ياهي والمح والمح وشام استعال كرايا كري بلتى كمانى ، بدن كرى موق، فان كرام الله يش لفع بنش بيد الماء كتابى يراناتين مور انجرے جاتا رہتا ہے۔ وست آوراور ریاح فتم کرتا ہے۔ عاموا بلغم فارج کرتا ہے، اس لئے دم ك مريضول كولا خاص كراس سدة الده اشانا جائية - الجيركا كالكرده ادر مثاندكي جول كواز زاز كرخارج كرديتا ب ے بیشاب بی کمل کرآ تاہے۔ بوائر کوفع کرنے علی مدود عا ہے۔ چھوٹے بجان کو انجر کھلانے سے داعوں کی خرائی تین موتى دن يومائے على حس تدرا تيركا فاكده ب شابدي كى اور چرکا ہو۔ جولوگ وسط جم کے بیں یاوزن زیادہ فیس ہے او ان كومرويون ش الجيم شروراستعال كرفي ماية وما في كام كرفي والول ك لتي يمي ب حد فائده متدب طبيعت كو فرحمع ماصل موتى بادروما في قوت بحال موتى ب الجيرك براوش كلوكوز رخميات اورحيا تين اي كابراوشال میں اور مزان کو گرم زاتلیم کیا گیا ہے۔ انچرکوپی کرشک مربق اوركها فاسك بمراه استنهال كرنا جائة اورد دعمن وات سعارياده استعال كرنامناس فيلس رفذاعيت كاحسين مرقع بيد





بہاری کے ایکو جینو میں مریف شاک میں جاسکتا ہے اور بلڈ

پریشر کم ہوسکتا ہے۔ پاؤں شخنڈ ہے ہوجا تے ہیں۔جم کے
اعدرہ فی اور بیرو فی حصوں پر بار کیسر خ دائے ہوجاتے ہیں۔
فریحی وائرس کا شکار ہونے والے افراد پراگر بیدوائرس دوبارہ
حملہ آور ہوتو ہے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس مرض پر قابو پاتا
مرف حکومت کے ہیں میں نہیں بلکہ پوری آبادی کوشعور دینے کی
مرف حکومت کے ہی میں نہیں بلکہ پوری آبادی کوشعور دینے کی
مرف حکومت کے ہی میں نہیں بلکہ پوری آبادی کوشعور دینے کی
افزائش نہ ہواور وہ خود چھروں کے کالے ہے ہی جھیں ۔ حکومت
افزائش نہ ہواور وہ خود چھروں کے کالے ہے ہی جھیں ۔ حکومت
انبیرے کریں اور عوام کا کام ہے کہ الی جگہوں کی نشائدتی
امیرے کریں اور عوام کا کام ہے کہ الی جگہوں کی نشائدتی
کریں اور گھروں میں صاف پائی کو بھی فرصانے پر کھیں کیونکہ
ایپرے کریں اور عوام کا کام ہے کہ الی جگہوں کی نشائدتی
کریں اور گھروں میں صاف پائی کو بھی فرصانے ورکر و اور این
کی اور کی بھی یہ فرض ہے کہ وہ مطابق میں نگل کرھوام کواس مرش
کے بارے میں بتا کیں اور وہ اس سے نہیے اور اس کے پروقت

اہرین کے مطابق یہ بیاری ایٹس آنچٹی قتم کے چھر کے کا شے
سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اس تتم کے چھر انسان کے
قریب قریب، شہروں میں بی رجع ہیں۔ کھی چھرا ہے ہوتے ہیں
جن کی افزائش تالا بوں اور جو ہڑوں میں ہوتی ہے جیکہ کھا قسام
الی ہیں جو کہ گھروں کے اندر بھی افزائش کر لیتے ہیں۔ ایڈی قتم
کے چھران میں شائل ہیں۔ 80-1979ء میں پہلی دفعد اس
بیاری کا پند چلا تھا۔ جب بیک وقت تین براعظموں میں بیخی ایشیا
، افریقہ اور امریکہ میدوا پھلی تھی۔ یا کستان میں 1994ء میں
پہلی مرتبراس سے متاثر وافراود کھے گئے تھے۔
پہلی مرتبراس سے متاثر وافراود کھے گئے تھے۔

شديدحمله

ڈینگی فیدر کی ایتدائی طامات میں بخار، کرور کی، پیینہ آنا اور بلڈ پر پیٹر کم ہوجانا شامل ہیں۔ آہتہ آہتہ بیجم کے سارے نظام پر اثر کرتی ہے۔ خون کی باریک نالیاں جنہیں ہم Capillary کہتے ہیں۔وہ پھٹاشروع ہوجاتی ہیں۔جم کے

جس حصہ پر بیدو صے تمایاں ہول وہ حصر تمایاں ہوتا ہے۔ جب يدياري دماغ اورحرام مغزير تمله كرتى بياتو مريض كي موت بعي ہوسکتی ہے لیکن زیادہ تر مریض ایک یاڈ پڑھ دن میں بہتر ہوتا شروع ہوجاتے ہیں۔ بہتری نہونے کی صورت میں بخار سرورو پٹوں جوڑوں میں در دمجوک م لکنا النی آنا پسینه زیاده آنا ،جسم شندا موجانا جيسي حالت عداموتى بيدمريش كابلذ بريشم موجاتا ب نبض آبسته آبسته ادر كزور موجاتى ب جمم يرده يزجات اورجكر يزه جاتاب بب بارى دماغ اورحرام مغزير حملہ کرتی ہے تو فالج ، بے ہوشی لقوہ جیسی علامات ہوتی ہیں یا تو مریش کا کوئی حسہ کا کرنا چھوڑ دیتا ہے یا مریش بے ہوش ہوجاتا ہے اور بیسب ابتدائی طامات کے ایک ون بعدین ہوجاتا ہے۔ اس باری کی شخیص کیلئے خون کے نمیث اور ایکسرے کئے جاتے ہیں۔ کچھ خاص فتم کے خون کے ٹمیٹ اسلام آباد ش فيذرل كورتمنث كي ليبارثري بس بي موسكة جي مدهاغ اور حرام مغز ش وينيخ والى يهارى ك تشخيص at اورmki سکین سے کی جاتی ہے۔اس کا علاج آیک انتہائی محبداشت کے بینف میں ہی کیا جاسکتا ہے۔مریض کے بلا بریشر، ثمیریچ اورخون کے نظام کونارل صرتک رکھا جاسکتا ہے۔ مریش کے وفاقی نظام جے جم Immunesystem کہتے جين ، كى دوكى جاتى بودرمريض آبستد آبستد بهتر بوجا تاب-جب مريينون دماغ برحمله كريكي مويا جركومستقل تقصان كبنجا چى بوان لوگول كالكمل طور برصحت مند بويامكن فيس بوتا _ ماہرین نے مزید بتایا کہ پہلی تھے میں جب وائرس حلد آور موتا ية ورعلامات موتى بين:

1- بخار تیزی سے پڑھتا ہے۔ 2۔ شدید سرورو، جسم اور جوڑوں میں وردیں ہوتی ہیں۔ کمر میں

بمي دردوق ب

3- چرومرخ ہوجاتا ہے اور برخیجم کے باق حصد ش بھی کھیا جات ہے۔ کھیل جات ہے۔

4۔ آگھیں بھی سرخ ہوجاتی ہیں۔روشی انچی ٹیس آئتی اور پائی بہتا ہے۔ آگھوں کی حرکت بھی درد پیدا کرتی ہے۔ 5۔ گرون میں گلٹیاں بھی نمودار ہو سکتی ہیں۔ 6۔ گردن میں اکڑاؤ آ جاتا ہے۔ 7۔ نینڈنیس آتی۔

یہ مرحلہ بہت بخت ہوتا ہیاور مریض کی حالت قائل رقم ہوجاتی ہے۔ جس کی وجہ شدت کا بخار اور درد ہے۔ تین سے چار دولوں بن بخار بیس کی آجاتی ہے۔ بن بخار بیس کی آجاتی ہے۔ اس مرض کا بخار مرف اور صرف ڈینگل مجھر سے بچاؤ ہے۔ جبال جبال یہ چھر پیدا ہو دہاں اس کیلے چھر مار دواؤں کا استعال کر سے سے کرنا چاہئے۔ رات کوجالی لگا کر سونا چاہئے، مارکیٹ بیل ایسے بیل بھی ہیں جوجم اور ہاتھوں کے کھلے ھے بہار کیٹ بیل بھی ہیں جوجم اور ہاتھوں کے کھلے ھے بہار کیٹ سے کہا ایسے بیل بھی ہیں جوجم اور ہاتھوں کے کھلے ھے بہار کیٹ سے کہا ایسے بیل بھی ہیں جوجم اور ہاتھوں کے کھلے ھے بہار کیٹ سے کہا ہے۔ اور ہاتھوں کے کھلے ھے بہار کیٹ سے کہا ہے۔ اور ہاتھوں کے کھلے ہے بہار کیٹ ہیں جوجم اور ہاتھوں کے کھلے ھے بہار گیائی۔

مشرقی طب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بیاری کا دومرانام

Dengue Hemorrhagic fever

جس شرجیم سے خون بھی بہتا ہے۔ جس کا عرف عام نام ڈینگی

ہر شرا بھی کئی اقسام کے ہیں۔ اس بیاری کا پھیلاؤ

انسانوں ٹیں ایک خاص ہم کے چھر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب

یے چھر ایک بیار شدہ مریض کو کاٹ کر کمی صحت مند خض کو کا نا

ہر تھو یہ بیاری چیل محق ہے۔ یہ بیاری عام طور پر دنیا ہیں گرم

مرطوب علاقوں میں ہوتی ہے۔ اس بیاری کا پھیلاؤں ملیریا کی

طرح ہے۔ بیاری زیادہ تر افریقہ ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ ادرا شیا

مرم مرم نے بیاری زیادہ تر افریقہ ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ ادرا شیا

مرم مرم نے بیاری زیادہ تر افریقہ ، انڈونیشیا، تھائی لینڈ ادرا شیا

اس بیاری کی وجہ سے خون کے جو platelets ورات ہیں۔


بہت کم بوجاتے ہیں اوراس کی وجہ سے جہم کے کئی حصوں ہیں
خون بہرسکتا ہے اور جلد کے یچےخون جم جاتا ہے۔ جس سے

مرخ و صب اور نشانات پر جاتے ہیں عام طور پر بیہ بیاری چید یا

مات دن تک رہتی ہے اور کئی وفعہ ایک جان لیوا بیاری کی شکل

مات دن تک رہتی ہے اور کئی وفعہ ایک جان لیوا بیاری کی شکل

یخن Dengueshock syndrong



و بینگی بخار، ایک جان لیوامرض برترین سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے اس سال ڈینگی وائرس کا حملہ شید ید ہوسکتا ہے مرجہ عمل



ا قوام متحدہ یں برسال پانچ کروڑے زائد افراو دیکی بخار کا فکار موتے ہیں اور سالان بیں بزارے زائد افراد ہلاک موجاتے ہیں۔ دنیا کے ایک سو کے قریب ممالک یس ڈیکی وائرس پھیلاتے والے اڑھیں اقسام کے چھر ہیں جس میں سے پاکستان میں ان میں سے مرف ایک قسم کا مجھر الى جس ميس سے ياكتان ميں ان ميس سے صرف ايك حم كا چھر مایا جاتا ہے۔ ڈیکی فورسے بھاؤ کی نہ و کوئی دواہاور نہ ای کوئی ٹیکہ ہے۔ ویکی بھار کو صرف حفاظتی تداہی ہے دوکا جاسكا ، وكتان سميت ايشياش ديكى فيوركا محطره بزمدربا ے۔ والموا كا اوكاكمتا بكرايشيا على ويكل كرد مع موت كينسركي وجدوره يرارت ش اضافه كئ علاقول ش شديد بارشيس ،سیلاب اور بدعتی موئی آبادی ہے۔ عالمی ادارہ برائے محت نے متلبہ کیا ہے کہ اگر حکومتوں نے ضروری اقد امات شد کے تو وينكى بخارس ونياكى تقريباً وهائى ارب آيادى كوخطره لاحق ب- اقوام متحده ك تحت كام كرف والي ادار ي

ایشان سفک کی 37 کے قریب حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس خطرناک عاری سے بیتے کیلئے ایک علاقائی محمت عملی کی توثيل كريل ويمكى والزس يأكمتان بيس ملك بيس اس مرتياب تک ڈیکی وائزس سے متاثرہ سینکٹروں افراد میٹنالوں ٹی ازیر علاج بیں مرشد سال 2009 میں صوبہ و جاب میں اس مرض سے بھاؤ کے بروقت مؤثر اقدامات کے مجے تھے جس کی وجدے بيمرض سال 2008 وي طرح ويائي شكل اختيار شكرسكا تفاجس ش يائح بزار الازائرادال مرض ش جلا موعد ملی تاریخ کے بدرین سیلاب اور بارشوں کی وجہے اس سال ويملى دائرس كاحملي يديد ومكاب جس كى ردانك وبليوانكا او دے چکا ہے۔ لہدا صوبہ پنجاب سمیت دیگر صوبول اور وفاتی وزارت محت كويمي اس صورتمال كالبيدكى سے بنكامي بنيادوں يرفوري نوش ليما جائية _ نيز دينكي سرويكينس سيلز كوفعال اور فو كل يرسنز تاحرد كرديين ماميل كرفكه موثر آگا عي مهم اور برونت اقدامات سے عی اس مرض کو کشرول کیا جاسکتا ہے۔ تین اكتوبه 2010 وتك ويكى بغار كرحوا ليست ونيا محرش كوتى

ديكسين موجود فيل تحي ليكن 14 اكتربر 2010 مكواطلاع لى كد لمأهبين سائنسدان وينكى وائرس يعياؤكي ملى ويكسين ينات ين كامياب موسيح إلى ملائيشين وزارات محت اورايك في سمینی کے تعاون سے منائی گی۔ بیر مکیس جلدی ڈیکل سے بجاؤ كيلي استعال كي جائے كي_

وينكى وانرس كاباحث بننه والالمجمر

ويكى بخاركا باحث فين والالمجمر بدا مفال يند بيدي عطرناک مجمر گندے جو بڑوں شن تیس بلکہ پارش کے صاف یانی، محریلو وافر ٹیک کے آس یاس ، صاف یانی کے بحرے موتے برتنوں اور گلدانوں مملون وغیرہ شی رمنا پشد کرتے ہیں جو كمرول شي عام طور يرسجاوث كيليخ ركم جات ين ربيه مجمر انسان مطلوع آفآب ياغروب آفآب كودت حلية ورموح الى _اس بخاركاعلم تمن سےسات ون كے اعد موتا بے عام سے نزلہ بھار کے ساتھ شروع ہونے والا بھارشد بدسر ورو، پٹوں میں دردادرجسم کے جوڑ جوڑ کو جکڑ کرانسان کو بالکل بے بس كردينا ب-جم كاويرى حصول يرسرخ نشان ظاهر موت ہیں۔ نوعیت شدید ہوجائے تو ٹاک منہ سے خون بھی جاری ہو جاتا ہے ۔ طبی ماہرین کے مطابق میخصوص حالات میں عدا مونے والا اعتبائی عطرتاک متعدی وائرس بھارے۔جو کدایک خاص فم کے مجر Aedes Aegypti کے سے ہوجاتا ہے۔ یہ وائل اور چھرکی افزائش کھڑے صاف یانی میں ہوتی ہے۔

ابتدائي علامات

ويكى وائرس بغارى علامت شروع شراس طرح بوتى يس-JKZ-1

2-يرش شريدورو

3_ الكول ك في صلي شديدورو

4 قامجىم كى بديال اوركوشت يهال كك كدجوز جوزش ورد 5_ يوك كامرجانااوركى كامونا_

چچ اور آ دھا چچ نظچر لیموں زین شامل کر کے اس کا لیپ سا بنالیں اور رات کو ہاتھوں پر ملیس۔

كعدر بالتحول كى كريم

بہت زیادہ کھدرے ہاتھوں کے لئے کاربونک ایسڈیم نصف
ویسلین ملاکرلگائیں اس کا ہاتھوں پررات کولگائیں۔ ہاتھوں پر
رات کولگائے والا ایک دوسرالیپ انڈے کی سفیدی کوگلیسرین
کے ساتھ قطروں اور شہد کے قطروں میں ملاکر بنایا جاتا ہے۔
انہیں اچھی طرح پھینٹنے کے بعد کافی مقدار میں پسی ہوئی جوار
ملالیں اورلیپ سابنالیں۔ ناخوں کوتر اشنے سے پہلے آپ ان کو
پنیم گرم زیجون کے تیل میں ڈبوئیں اور اپنے ناخوں کے اوپر
والی جلد پر دوز اندرات کولیس۔ اگر ناخوں کی جلد کھدری ہے تو
ویسلین لگائیں۔

ناختول كالوش

روغن بادام اورسفیدآئیوڈین کواگر برابر مقدار میں ملایا جائے تو وہ ناخنوں کے لئے بہتر لوثن ہے سفیدآ یوڈین چکنی نہیں ہوتی وہ دن میں کسی بھی وقت استعال کی جاسکتی ہے۔

باتھوں اور ٹاخنوں کے دھے دور کرنے کالوشن

ہاتھوں اور ناخنوں کے دھبول کو دور کرنے کے لئے آلویالیموں کے مکڑے کے لئے آلویالیموں کے مکڑے کے لئے آلویالیموں کے مکڑنے کے مکٹوں اور ناخنوں پر ملیں ناخنوں میں سرخی اور چمک پیدا ہوجاتی ہے آگرار نڈی کے تیل میں سرکہ طالیا جائے اس کے استعمال سے بھی ناخنوں کی حفاظت بہتر ہوتی ہے۔

ہرروز ہاتھ دھونے کے بعد ناخنوں کے کناروں کوصاف کریں اور
اچھی طرح و کھے لیس کہ ناخنوں کی نوکیس بالکل صاف ہیں جب بھی
آپ کو فرصت ہوآپ اپنے ہاتھوں پر سفید آ ہوڈیں ملیس۔ ناخنوں
کی ہفتہ وار حفاظت ناخنوں کی بہتر نشو و نما کے لئے ضروری ہے کہ
آپ اس کی ہفتہ وار صفائی کریں۔ اگر آپ نیل پالش لگانا نہیں
چاہتیں مگر اس کے باوجود بڑے ہوئے ناخنوں کو تر اشنا اور ان کو
بیضوی شکل و بنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نے نیل پالش لگانا نہیں
رکھی ہے تو پہلے ریمووری مدو سے نیل پالش اتنارویں۔ نیم گرم پائی
میں الگلیوں کو ڈبو کی مدو سے نیل پالش اتنارویں۔ نیم گرم پائی
کریں اس کے بعد ہاتھوں کوصاف تو لئے سے صاف کریں اور
ساتھ ہی بالائی جلد کو ہلا کیں اور پری جلد پر نارٹی اسٹک لگا کی
ساتھ ہی بالائی جلد کو ہلا کیں اور پری جلد پر نارٹی اسٹک لگا کی
ساتھ ہی بالائی جلد کو ہلا کیں اور پری جلد پر نارٹی اسٹک لگا کی
ساتھ ہی بالائی جلد کو ہلا کیں اور پری جلد پر نارٹی اسٹک لگا کی
ساتھ ہی بالائی جلد کو ہلا کیں اور اسے پیچھے کی طرف نہ و تھیلیں ایسا
تونوں کی جھی نہ کا ٹیس اور اسے پیچھے کی طرف نہ و تھیلیں ایسا
تونوں کی جھی نہ کا ٹیس اور اسے پیچھے کی طرف نہ و تعلیلیں ایسا
تونوں تونوں کے جاندار گوں کونقصان کی تھی ساتھ کی سے ناخنوں کے جاندار گوں کونقصان کی جس ساتھ کی ہوں تونیل پائٹ بیشوی شکل میں لگا کیں۔
توکورتم کے ہوں تونیل پائٹ بیشوی شکل میں لگا کیں۔

بازوؤل کی دیکیے بھال • تا سرحہ سر

خوا تین کوجسم کے دوسرے حصوں کی طرح باز وؤں پر بھی خصوصی توجہ دینی جائے ان کو بمیشہ بہتر حالت میں ہی رہنا جائے۔

بازوں يراكانے والى كريم

بازوؤں کو اچھی حالت میں رکھنے کے لئے گھر پر کریم بنانے کا طریقہ بیہ کہ دوانڈوں کی سفیدی کو ایک پیالہ عرق گلاب میں چند سینڈ تک ابالیں پر چوتھائی چھ پھٹلری کا پاؤڈر ملائیں اور پھسلنے رہیں کہ وہ چیپ دار ہوجائے اس لیپ کو بازوؤں پر لگائیں اور کم از کم ایک گھٹے تک لگارہنے دیں آپ اپنے بازوؤں کی مالش کی بھی ایک کریم یالوٹن نے رکھتی ہیں جوآپ بازوؤں کی مالش کی بھی ایک کریم یالوٹن نے رکھتی ہیں جوآپ اپنے چہرے کے لئے استعال کرتی ہیں۔

اگر بازود کی پر بہت زیادہ بال ہوں تو مزید احتیاط کی ضرورت ہے بالوں سے نجات حاصل کرنے کے لئے آپ شنڈی کریم لگاستی ہیں ایسا کرنے ہے آپ کے بازو چکنے اور چکدار ہوجائیں گے ایسا کرتے رہنے سازووں پر بال بہت کم آگیں گے۔

ہائیڈروجن پر اکسائڈ کے تین حصوں کو امونیا کے ایک حصہ میں ہائیڈروجن پر اکسائڈ کے تین حصوں کو امونیا کے ایک حصہ میں ملائیں روئی ہے اے بازووں پر لگائیں اور خٹک ہولینے دیں دس منٹ کے بعد بازووں کو شنڈ سے پانی سے دھولیں اس سے دس منٹ کے بعد بازووں کو شنڈ سے پانی سے دھولیں اس سے آپ کے بال سنہری ہوجائیں گے۔

کیدال

بعض خوا تین میک اپ کرتے وقت کہنیوں کونظر انداز کردیتی ہیں کہنیوں میں سیاہ دھے جنگی کے دھے یا میل ہاتھوں اور ہاز وؤں کا حسن بھی عارت کردیتے ہیں اس لئے کیموں کے عرق کا استعال یا قاعدگی ہے کریں کیموں کا عرق کہنیوں پر لگانے ہے وہ سفید اور نرم ہوجاتی ہیں گہنی کی بخت جلد کو ملائم کرنے کے لئے باوام کا پاؤڈر بنا کر اس میں تھوڑ الیموں کا عرق ملادیں اس کے بعد کہنی کا مساج کریں۔ پھے دریتک اس طرح لگا کر کھیں یا کچھراس کو نیم گرم پانی ہے دھودیں کہنی کے میک اپ کا طریقہ سے کھراس کو نیم گرم پانی ہے دھودیں کہنی کے میک اپ کا طریقہ سے کے کہ پہلے کوئی کولڈ کریم کہنیوں پراچھی طرح لگالیس پھراس میں ٹالکم پاؤڈر لگالیں پھراس میں ٹالکم پاؤڈر لگالیں پھراس میں ٹالکم پاؤڈر لگالیں کا جدے کہنی کی رگھت کھر جائے گی۔

ناخنوں کی دیکھ بھال

ناخن کے اردگرد تھوڑ ہے نیم گرم تیل کی مالش کریں اور پھر
اے اچھی طرح ہو چھ ڈالیس کہ چکنائی کا کوئی نام ونشان باتی نہ
رہے پھر ہائیڈ روجن پر آ سمائیڈ کے تین چچ کو امونیا کے ایک
چچ میں ملائیں اور کم پچر کوروئی کے نکڑ ہے ہے الگلیوں اور ہاتھوں
پرلگائیں دویا تین منٹ کے بعد ہاتھوں کو دھوکر خشک کرلیں اور
کوئی لوشن لگائیں آپ ناخنوں کی پالش کی پہلی تہا خنوں کی جڑ
ہے ناخنوں کی ٹوک تک لگائیں جس وقت تک پالش گیلی ہوتو
بلانگ پیپر سے ناخنوں کے کناروں کو دور رکھیں تا کہ پالش دور
ہوجائے اور کلڑ کے کلڑ سے نہ ہو۔

ناخن پالش كوبالا كى سے تھوڑ اسامٹا كردگا ئيں تا كە بوا تاخنوں كى جڑ

تک پڑنے سکے۔ جب پائش کی پہلی تہد خشک ہوجائے تو دوسری تہد
ای طرح سے لگا ئیں نارفی رنگ کی اسٹک کور یموور میں ڈبوئیں
اور زیادہ لگ جانے والی پائش کو صاف کردیں۔ اگر آپ کے ناخن
زیادہ چوکور تم کے ہیں تو ناخنوں کی پائش کو بیشوی شکل میں لائیں۔
ہمارے ناخن بھی ہماری صحت کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں اگر
ناخنوں میں سرخی نہ ہو یا اس سے سفید دھیے ہوں تو کہا جا تا ہے
کہ آپ کی صحت خراب ہے ناخنوں کی افزائش کے لئے وٹا من
ناخنوں کا علاج ہے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے
ناخنوں کا علاج ہے اکثر لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے
ناخن ٹوٹ جاتے ہیں ان کے لئے لوش تیار ہے۔ جانوروں کی
ہڈیوں کا گودا اور عرق گلاب کا لوش اگر ناخنوں پر نگایا جائے تو
ہڈیوں کا گودا اور عرق گلاب کا لوش اگر ناخنوں پر نگایا جائے تو
ناخن ٹوٹ ناخدوں پر نگایا جائے تو

مردن کی و کھیے بھال

اگر آپ کی گردن بھدی ہے تو اس کی یہ کیفیت آپ کی خوبصورتی متاثر کرے گی اس لئے جس فدرآ پ اپنے چرے کو توجہ دیتی میں اور جو کریم یا لوثن آپ اپنی گردن کے لئے بھی کے لئے استعال کرتی ہیں وہی آپ اپنی گردن کے لئے بھی استعال کریں۔ جب بھی آپ اپنے چرے کو دھو ئیں تو گردن کو بھی ضرور دھولیس اگر آپ اپنے چرے کو دھو ئیں تو گردن کو بھی ضرور دھولیس اگر آپ اپنی گردن کو نظر انداز کردیج ہیں تو اس کا تنجہ بیہ دھا کہ آپ کے جرے اور گردن کی کیفیت پیدا ہوجائے گی۔

الكليول كى ورزش

مفیوں کواس طرح بند کریں کہ چاروں انگلیاں اندر کی طرف رہیں اورانگوشااو پر کی طرف تیزی ہے مفیوں کو کھولیں اور بند کریں بیٹمل کئی ہار کریں۔میز کے قریب بیٹھ کر انگلیوں کواس طرح حرکت دیں کہ جس طرح ساز بجاتے ہیں۔

ماتھوں کی ورزش

عر گزارنے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کے جوڑ موٹے اور کھیلے جونے لگتے ہیں ہاتھوں کی با قاعد گی ورزش کے ذریعے انہیں روکا جاسکتا ہے۔اس کے بھی کی ایک طریقے ہیں۔

1۔ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کی کلائی سے پکڑیں اور پکڑے ہوئے ہاتھ کو پہلے سیدھی طرف پھرالٹی طرف گولائی میں چکر دیں باری باری دونوں ہاتھوں کو چکر دیں اور باری باری دونوں ہاتھوں پر پیٹمل دہرائیں۔

2- میز پر پہلے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے ٹکا کئیں۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کی طرح ہوا کئیں۔ آ ہستہ اس کی طرح ہوا کئیں۔ 3۔ ہاتھوں کی ڈھیلی کھال کو کسنے کے لئے ماسک استعال کریں اس کا طریقہ ہیہے کہ انڈے کی سفیدی خوب پھینٹیں پھر ہاتھوں مریق ادر سوکھنے کے بعد ہاتھ دھولیس۔ مریکا کرخوب مالش کریں اور سوکھنے کے بعد ہاتھ دھولیس۔

باتعول يرحنانكى الريم لكائس جس على بجلنائي كم بواس متعدك کو توبسورت بنائے شی دومری ماتحول كى و كيد يعال

تصبت چروں كے علاوہ إلى يدى اجبت ركھتے ہيں كوئى خوشى كى تقريب ہويا قم كى محفل ش سلام، وعا اور حراج بری کے دوران سب سے مللے باتھوں پرنظر براتی ہے بانعول كود كمدكر تل فخصيت ادرهم كاانداز دلكا يا جاسك بالبحض باتحدامة سترول اور والسورت بوت بي كرافيش باربارد يكف كوول ما بتاب دوائي خواصورتى خوديان كريب موت إلى-ليعض خواتكن ابيغ جراء ورثوخا لمرخواه تعيدوني جربيكن ان ك باتدان كى توب عروم بوت بير يو يوك ورداده ركين ك ساته باتول بالدر تل بحى خرورى ب كوكد جب آب بلتي إلى آب ك يرب كماتهماته باتد كي بينام وسانی کردے ہوتے ہیں ایکھے خواصورت اور صاف ستحرے باتھوں ہر ہے زہر شلا انگوشی، چوٹیاں، کلائی بندے، كڑے بكتن ، مى خوبصورت سيخ إلى اس لئة آب اس چرے کم اتھا ہے بالوں پھی توجد یں۔

لیعف خواتین کے ہاتھوں میں سیاہ کیکریں بڑی ہوتی ہیں ناھنوں کے بوروں کے درمیان بی گوشت کے ساتھ میل کی سیاہ جہد ب الحن بذا تولية جات إلى لين دوكل سائه موسة ہوتے ہیں ایسے باتھوں کود کھے کر کراہت محسوس ہوتی ہے۔ باتعول كى منادث اورساخت الفائيس مخلف بثريول سے دجود یں آئی ہے جس میں ویکر حصول کی نسبت باتعوں کی جلد کے تے بہت مجنے مادہ کو بيدا كرنے والے موادموجود ہوتے ہيں للذا أثين معنوي طريق م يكنائي قرابم كرني جاسية تاكه كمر ككام كاج سے واقعول كوقدرتى روفتوات ضائح موت بي ان کاا زالہ کیا جائے کیڑے دھوتے وفت، برتن صالب کرتے وقت یا گھر کی جھاڑ ہو تھ کرتے وقت وستانے استعال کرنے واكي - اكروستان استغال ندكري أو يحركام كرف سيقل

لے كى متم كى ويند كريم اور لوش بازار ش وستياب إلى جن كى خوشیوا چھی مول ہے ویند کریم یا لوثن کی وان ش دویا تین مرحبہ مالش كريں۔خاص طور يركيڑے وجوتے كے بعد كريم لكا تي كوكله صائن يا واهنك ياؤؤر كيرول كيمل جيل كساته ساتھ باتھ ش عيدا ہونے والے روفتيات اور يكنائي كوشتم كروية بصائن اور ياؤؤرش ياع جات والاكاك مودا باتعول مل ملامع اور فويصور آل كے لئے تاه كن ب- باتھ آ رائش من كاحسهوت إلى السلة ان كي مي د كي بمال اتى الهيت كى حال بي يشى آب اين جر عى كرتى إلى جريك توميك اب ك وريع ي كشش عايا جاسكا ب كر بالمول كو الالل ويد منال كى دكي بمال بهت شرورى ب تاكيشن اورمغائي كي البيت كالحساس عدامو_

اكرقدرت في آب كوفي مورت باته عطاك إلى و هركزار مول اوران کی اچھی طرح ہے حفاظت کریں تا کدان کا قدرتی حسن برقرار مبداكثر اوقات لايردائل ك ياحث نوجوان مورتوں کے بھی باتھوں میں جمریاں پر جاتی جی باتھوں کی حفاظت كرسليطش ببلاقدم توبيب كرانبي بالكل صاف مقرا وميس اختول كوداعول ي جاناندمرف برى عادت بي بك اسے باتھوں کی وضع بھی بدنما دکھائی دیتی ہے۔اس عادت کو ترك كرناى بحر بوتا باس عادت ع يحكارا ماصل كرنے ك التول ي كر يسرة رعك كي بنل يالش لكا كين الك جب مى آب نافنون كوجبائ كاكوشش كري كى تواس كاسرخ رنگ اور کا حره جانے کی حرکت سے یاز رکے گا۔ رفت رفت ناختوں كاشور عدا موتے على آب خودى ناختوں كا الشورى طور برجیانا چھوڈ ویں گی۔ ناشنوں کی لمبائی کم رکھیں اور ان کو يينون شل كارتيل ..

مریادکام کائے کے باحث ہاتھ کھدرے موجاتے ہیں اس لئے ان بر كمى كريم ولوش كا استعال با كاعدكى عد كري _ كيول يا سركه كااستعال محى باتھوں كو كائل ديدينا تاہے اس لئے كيموں كو باور می خاندی برونت رکیس اس لئے لیموں کا مرق باتھوں كوزم وسفيداور ناعنول كوصال كرناب استعال شده كيول کے نسف کووں کو بھی اسینے باتھوں براور کہدیوں برطیس بیش آب دن شركى وقت مى كرسكن بي شهدادر عقر عيد حرق كويجى اكرمساوى مقدارش طالباجائة تواس يجي باتحدزم -リナエック

ماتعول كاحتاطت كالمريلوني


چنرولی اور کمریلوشنے استعال کرے باتھوں کے صن کوودیالا كياجاسكا بيدنغ بهت سيقادرمغيد إس

1_مرق ليمول ش كليمرين لمائيس أيك جموفي حجى يورك ايدة ڈال کر نتیوں کو بیب جان کرلیں اور شیعی میں مجر کر رکھ لیں۔ ہاتھ وحوتے کے بعدود تین مرحبہ استعال کریں۔ یہ باتھوں کی جلدكو يكنا بزم اور كك كلمارة كيالتي يدثال ب 2_رات كوسوت والت فالعن بإدام كروفن س والحول كى بالشريري

3- مرق گاب ، مرق ليمول اور كليمري طاكرايك هيشي يش مجر لیں دن میں جارد قعیاں کے تطریب ہاتھوں میں ل ملیں۔ 4_ ليول كي عرق اورمركداكر بمايد مقدار شي طاليا جائية اس سے باتھوں کوسفید کرنے کالوشن بن جا تا ہے۔

بالحول ير فيدوالي كريم

يركم آب كمر تادك ي بي جكه إذارى كريم عدياده موثر ہوگی ایک افرے کی وردی لیں روش بادام کے سات قفرون ش طاكراسي كرم كري اس شرح في كلاب كاليك بذا



آل پاکستان میمن فیڈریشن کی لیڈیز ونگ کے زیرا ہتمام سالانہ جلسہ تقسیم انعامات واسنا دبرائے طالبات 2010ء







آل پاکستان میمن فیڈریش کے زیراہتمام سالانہ جلسہ تقسیم انعابات و اساد برائے طالبات 10 0 و میمن اسپورش کمپلیکس مفتد کیا 2010ء کی شام چھے بج منعقد کیا اسپارتقریب کے مہمان تصوصی ایڈوائزروزیراعلی سندہ محترمہ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی تھیں اور صدارت ہیڈ آرتھو پیڈک محترمہ ڈاکٹر ریحانہ محمد علی شاہ نے کی اور گیسٹ آف آنرایڈ مشریئر عمران ریحانہ محمد علی شاہ نے کی اور گیسٹ آف آنرایڈ مشریئر عمران درجانہ محترمہ فرناز منیر گسٹرکٹ آفیسر ایج کیشن Rehabilitation محترمہ فرناز منیر محترمہ فرناز منی فریب تھیں۔

تقريب كا آغاز الدوت كلام ياك عضرم جويريكم فيكيا


جید بارگاؤرسالت مآب میں بدید نعت رسول مقبول ما گفتہ محتر مد شبتاز عبدالرزاق نے بیش کی ۔ تقریب میں میمن برادری کی متاز شخصیات انعام یافتگان طالبات جن کی تعداد 400ء زائد تھی اوران کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس کے بعد مہمانان گرای کے دست مبارک سے گولڈ میڈل بشیلڈ رفتیم کی گئی۔

گولڈمیڈلز اور شیلڈز

آنسد بجدا قبال مین میڈیکل کے شعبے میں دن گولڈ میڈاز ماصل کرنے پر (لیافت بو نیورٹی آف میڈیکل ایڈ ہیلتے مائٹسز) آنسھائٹ شعارف سلاٹ

پورڈ آف انٹرمیڈیٹ استخانات2005ء یمی پہلی پوزیش اور صدارتی ایوارڈ حاصل کرنے پر آنسدداشیایا زصد لیقی 2008ء یمی پورے سندھ میں پہلی پوزیش (ڈیلومدالیوی ایٹ انجیئز) آنسر مباجمہ یوسف بیکام کے استخانات2009ء یمی کراچی بحریمی پہلی پوزیش آنسراسا والطاف میٹرک جزل گروپ کے استخانات2010ء یمی کراچی بحریمی کراچی بحریمی

اس کے بعدیہ بروقار تقریب خیروخونی اعتقام پذیر ہوئی۔



آل پاکستان میمن فیڈر کیش کے زیرا ہتمام سالا نہ جلسہ تقسیم انعامات واسناد برائے طلبہ 2010ء







آل پاکستان میمن فیڈریشن کے زیراہتمام سالانہ جلسہ تشیم
انعابات واسناد برائے طلبہ 2010ء میمن اسپورٹس کمپلیس
الوار 17 اکتوبر 2010ء کی شام جھے بجے منعقد کیا گیا
۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان آگم تیکس بار الیوی الیشن
کے صدر جناب عبدالقادر میمن سے اور صدارت السنی ٹیوٹ
آف چارٹرڈاکاؤٹٹٹس آف پاکستان کے سابق صدر جناب
عبدالرجم سوریانے کی اور گیسٹ آف آئر میمن خدمت فورم کے
جیئر مین حاتی مسعود پار کی تمغدالتیاز سے جواچی ٹی معروفیات
کسب شرکت نہیں کر سے علاوہ گیسٹ آف آئرش میم میم
بلڈر کے چیف آگر کیٹو جناب آصف سم سم سے شے شیخانی
فاؤٹٹریشن کے چیئر مین جناب گودوشیخانی بمیمن فیڈریشن کے
سابق صدر جناب حاتی قاسم کھانائی بسابق صدر بیمن فیڈریشن کے
سابق صدر جناب حاتی قاسم کھانائی بسابق صدر بیمن فیڈریشن کے
جودہ بیماران میں ادارے کے صدر جناب احمد عبدالرزاق
عہد بیماران میں ادارے کے صدر جناب احمد عبدالرزاق

سکریزی جناب محمد عارف ڈانگرا، فالس سکریزی جناب محمد پونس مکسرا، نائب صدر اول جناب صدیق آدم، جوائف سکریزی اول جناب سلیم لا کھائی علاوہ جناب سلیم فکور جاوا والا اور جناب محمود پار کیے بھی اس تقریب میں موجود تھے۔

تقریب کا آغاز طاوت کام پاک سے قاری محد یکی زکریا کوندل نے کیا جبہ بارگاؤ رسالت آب بیں بدیدفت رسول معبول المحلة جناب محد احمد قدم گذرنے بیش کیا ۔ کمیئر تگ کے فرائض ممتاز ٹی وی کمیئر جناب الطاف ویائی نے انجام ویکے۔ تقریب بیس میمن براوری کی ممتاز شخصیات، العام یافظان طالب علم جن کی تعداد 300 سے زائدتی اوران کے والدین کی بوی تعداد نے شرکت کی۔

اس تقریب کواسپائسر کرنے والے اداروں میں اے کے ڈی گروپ، ہم ہم بلڈرز اینڈ ڈویلپر ز،ایڈواٹس ٹیلی کام، پریمئر گروپ،اسٹینڈرڈ ٹیکٹائل طز، یونیک موٹرسائیکل وفیرہ شامل حت

اس کے بعد مہمانان گرامی کے دست مبارک سے گولڈمیڈل،شیلڈر تعلیم کی کئیں۔

گولڈمیڈلز اور هیلڈز

محمايين محماتور

پوردٔ آفاش میڈیٹ امتحانات 2008ء میں پہلی پوزیش عبدالباسدامح معنیف موسانی دروان انٹام ورد واستان پر 2008ء میں اترین روزیش

يوردُ آف اعرميدُ بيث احتمانات 2008 ويش ساتوي پوزيش حنين عمد ياسين

پوردُآفاشاشرمیڈیٹامتخانات2008ء شی کویں پوزیش محمد شارق فاردق ہاشم

بورد آف انزميد بيث احتمانات 2008 مش دسوي بوزيش ابو بريره يعقوب دهناني

ابو ہریرہ بیقوب دھنائی دوسرے درلشارش آرش فیسٹیول (کش آئی لینڈ،ایران) میں جوجشو فائٹ (Jujitsu Fight) پر کولڈمیڈل اورسلور میڈل حاصل کرنے پر

مثاثر ہوسکتا ہے۔ لبندا احتیاط کریں، جب خود بھار ہوں تو بیچ کو جراثیم سے تحفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔

ایسے افراد کو جن کی عر 50 سال سے زائد ہو،عموماً سرد ہوں می محضے اور دوسرے جوڑوں می دردکی کافی فکایت رائی ہے۔ أتش مرديون ش كافى مدتك احتياط كرني جاييا أكرمردي كى لهران كيسرول اور بلريول يريثني ربياتو بيلهران كومقلوج مجى كركتى براس عقالح كالكيد مى موسكت بالنامرعرك لوگ مردی کی شدت ہے بھی، احتیاطی تدابیرا حتیار کریں اور ساتھ مردی کی مجھ بیار پول شٹائی نزلدہ زکام اور فلو کی ویکسینیشن مجى كروائين، كيونك مروى كى وجدے جو دائرى جىم بين واقل موجات بي، وو فلام تعلم كو تقسان كالبات بير رزار، زكام ، قلوكى ويكسين كروائے سےجسم بي ان ياريون كا واطله منوع موجاتا ب اور وائرس مجى تيس عدا موسكة _ برويكسين ایداوکوں برجلدار کرتی ہے، جو پہلے بھی ان امراض ش جلا رہ میلے مول۔ بیجم کے عافعی نظام کومضوط کرتی ہے اور وائرس کو ہلاک کرتی ہے۔ ویسے تو اس دیکسین کا کوئی سائیڈ الفلك نيس ب مرجب يالتي بالو الليفن والى جدمرن موجاتی ہاور کانی عرصے تک محجلی رہتی ہے، ایسے افراد جنہیں اللے سے الرقی مور دور دیکسین برگز ندلگا کی کو تک بیخود الله ول بي شر تشود تما ياتى بـ

ایسے صحت مند بچے جن کی حمریں 5 سال سے 17 سال کے ورمیان ہوں اور ایسے فراد جن کی عمریں 5 سال سے 17 سال کے ہوء افری اور ایسے فراد جن کی عمریاں Nosal spray Vaccine کرونی چاہیے۔ اس کے فیلی اثر اس کم سے کم ہوتے ہیں، ایسے مریش جن کو کینسریا ایڈز ہے، وہ کسی جس حمریش کو حمریش کو کسی مسالس کے مریش کو جسی و کسیس کم اور 50 سال سے قرائد عمر کے لوگوں کے لیے بھی و کسیس تقسان دہ ہوگئی ہے۔

سردیوں کی بیماری سے بچاد کے لیے سب سے اہم طریقہ تو ویسینیفن ہے لیکن ہم بچھ امتیاطی قدامیر بھی بتارہ ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے آو انشاء اللہ کی بھی تنم کی بیاری لائق فیس مدکی۔

مردیوں میں کیڑے ایسے پہنیں ، جن سے پوراجم جیپ جائیں ادرجوجم کوگری میا کریں۔جب بھی گھرسے اہرتظی گرم موئز ماجیٹ زیب تن کریں۔

مکلے کو ہوا ہے محقوظ رکھنے کے لیے مقل یا گرم کپڑے کا استعال کریں یا الی جیکٹ استعال کریں، جس میں ٹوپی ساتھ ہو۔ سریر اوٹی ٹوپی یا کمی بھی تم کی گرم کپڑے کی ٹوپی اس طرح پہنیں کداس ہے آ ہے کے دونوں کا ان اور ماتھا جیسیہ جائے۔

سینے کی حفاظت کریں، بید بہت حساس ہوتا ہے، اس کو سرد موا دُن سے پچا کیں اور جب بھی اسکوٹر چاہ کیں تو سینے کو چھپائے کے لیے کوئی شخت پلاسٹک یا گانا وغیرہ رکھ کر قمیش پیٹیں، اس سے ہوا سینے تک ٹیس چیخ سے گی۔

شخطٔ اپانی خشنری شے مثلاً کولندؤ ریک اور جوس وغیرہ کا استعال بند کردیں ، صرف سوپ فکس وہ بھی گرم ، بیسر دی ش حرارت کا کام دیتا ہے۔

رات اور می کے وقت جب بھی کوئی تی ہوئی یا تھی والی غذا استعال کریں تو فوراً ششارا پائی ندیکیں، غذا کے بعد ایک تحفیہ کا وقفہ شرورد یں اور سردی کے دنوں ہیں کھٹی غذا کیں ہر گر استعال شکریں کیونکد ان سے گلا خراب ہوسکتا ہے۔ موسم سرما ہیں تو ویسے بھی ناک، مکلے وغیرہ کو خراب ہونے کا بھاند جاہیے ہوتا

کوشش کریں کرنہا کرفرانہ سوئیں اور نہ ہی فورا باہر جا کیں اس ہے بھی انتیکھن جوسکتا ہے۔

ایے افراد جو وائر سے حتاثر ہو کیے ہیں، گرائیس طاقوں کاملم
خیس کچھڑ سے کے لیے دیگر افراد سے علیمدہ ہو جانا چاہیے تاکہ
دوسرے لوگ مخوظ رہ سکیس کیونکہ یہ امراض ایک سے دوسرے
جسم شی باآ سانی خطل ہوجائے ہیں، خاص طور پر فوزائیدہ ہیے
کے پاس قوبالکل شہا کیں کیونکہ اسے فوراً بنا ادی لگ مخی ہے۔

ہیجل کو معالٰ کے مشورے کے بغیر کوئی دواند دیں۔ اس سے
ہیجل کو معالٰ کے مشورے کے بغیر کوئی دواند دیں۔ اس سے
ہیجل کو موان کے مشورے کے بغیر کوئی دواند دیں۔ اس سے
مثر دول ہوتا ہے پھر کر دری ہونے گئی ہے جو دوسرے اعتما تک
چل جاتی ہے، دیاخ بھی متاثر ہو مکل ہے۔ دیاخ ٹوٹ پھوٹ کا
ہیل جاتی ہے، دیاخ بھی متاثر ہو مکل ہے۔ دیاخ ٹوٹ پھوٹ کا
میل جاتی ہونے کا سب بن سکتا ہے۔ یہ کہ
دیار ہوکر موت کا سب بن سکتا ہے۔ یہ کہ
جاتی ان اخراد فیرہ ش اس کی کائی مریض پائے جاتے ہیں۔
ہیمونا ان بچل کوئی کی عربیا دسال سے بارہ سال تک ہوں زیادہ
مام ہے۔

علف ڈاکٹروں کی ادویہ لینے سے سائل پیدا موسکتے ہیں، بیشرایک ع معالج سرجوع کریں بعض اوقات ایک عل دوا علف برایشش دستیاب ہوتی ہے۔ ایک دواؤں کے استعال سے جگرمنا ٹر ہوسکتا ہے۔

جب می کمانی یا چینک آئے تو فررادونوں باتھوں کو اچھی طرح پائی سے دھولیں ، اس سے می جاری کے امکانات کم جوجاتے ہیں۔

مندرجہ بالا احتیاطی خوابیر رحمل سے شعقہ کی بیار ہوں اور مردی کے جرافیم کو مجر پور طریقے سے فکست دی جاسکتی ہے۔ ابتدائی مرسطے پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تاکہ چھوٹے سے مرض کوچھوٹی



عمر میں متم کردیا جائے کے تکسا گرم خی پڑھتا ہے ہوجم سے فٹلف اصعناء کو تقتصان پہنچا سکتا ہے۔ ذیدگی کے لیے ذیدگی گزارئے بیں احتیاط برتیں کہ زندگی حرف ایک بادلتی ہے، موسم تو ہرسال آتے جاتے دہیں گے۔

مردیوں کا ایک مسل جلد کی قرابی بھی ہے۔ سردیوں کا آ قاذ

ہوتے تی انسانی جلد خطی کا شکار ہوجاتی ہے، جس سے چہرے

کفدو قال بھی محقیاتہ کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے اور جلد پہنے

گئی ہے۔ چہرے کے علادہ ہاتھوں کی جلد بھی بری طرح متاثر

ہوتی ہے، چر جول جول سروی بڑھتی ہے، چہرے کے علادہ

پورے بدن پر جلد کی بتاریاں گا ہر ہونے لگتی ہیں، جن سے بہا

کی حفاظت کے لیے خالفہ ہم کے طریقہ، طابق آ زمائے جاتے ہیں۔ جلد

کی حفاظت کے لیے بازار ہیں ایسے بہت سے موتی رائز ر

زوستیاب ہیں، جو جلد کو صحت مند کرنے کی بجائے خواب

کردیتے ہیں، جو جلد کو صحت مند کرنے کی بجائے خواب

کردیتے ہیں، جو جلد کو صحت مند کرنے کی بجائے خواب

کردیتے ہیں، جو جلد کو صحت مند کرنے کی بجائے خواب

کردیتے ہیں، جو جلد کو صحت مند کرنے کی بجائے خواب

کردیتے ہیں، خصوصاً گزشتہ دو آین وہائیوں سے جلد کی حفاظت


کے لیے معمودی اجزاء سے تیار کردہ لوٹن عام ل رہے ہیں،

گلب کو جلدی بیاریوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے

مضا کہ بین ، یکھانے ہینے کی اشیاہ بیں بھی استعمال ہوتا ہے

ادر جلدی امراض کے طادہ بھی دیگر امراض بیس کارآ مد تصور کیا اور جلدی امراض کے طادہ بھی دیگر امراض کے ملادہ کیا۔

سروبین بین انسانی جلد، باخضوص حورتون اور بچون کو جلد کا ایگر میا، الرقی اورجلد کے بھٹے سے جو حوارش لائن ہوتے ہیں، سروبین بین انسانی جلد، باخضوص حورتون اور بچون کو جلد کا ایگر بیا، الرقی اورجلد کے بھٹے سے جو حوارش لائن ہوتے ہیں، عرق کا ب ان کے لیے ایک موثر دوا کا کام کرتا ہے۔ حرق کا ب انسانی جلد کے لیے ایک کو ہر ٹایاب ہے اور جلدی امراض کے ڈاکٹر آئیں متعدد و بیار بون کے لیے استعال بھی کراتے ہیں، مثلاً عرق گاب انسانی جلد کو تو بیار بون کے لیے استعال بھی کراتے ہیں، مثلاً عرق گاب انسانی جلد کو تو بیار بون کے لیے استعال بھی



سرد بول میں شدت

سانس، سینے، جلد کے امراض میں اضافہ احتیاطی تد ابیر لازی

نزلہ زکام ، فلور کے لیے ویسینیشن ، جلد ، آئھوں کے لیے عرق گلاب کا استعال مفید

مغيان ييسعث ثنى

جن مما لک ش سردی کا موسم نیش ہوتا، وہ ندرت کی بہترین نست سے محروم ہیں، پیسے افریقہ دفیرہ۔ افریقہ اور شرقی وسلی ش زیادہ گری رہتی ہے، بکی وجہ ہے جب بھی سردی کی ایک بھولی بھی ایران ممالک کا رخ کرتی ہے تو دہاں شرح اسوات شی اضافہ موجا تا ہے۔

ہے ہات فے ہے کہ اگر دیم کی کوسٹندل طریقے یا میا شدوی ہے

دگر ادا جائے تو دیم کی مشکلات کا شکار ہوجاتی ہے۔ ای طرح

اگر مردی کی شدت میں اضافہ ہوا درہم احتیاط در کریں تو صحت

بری طرح متاثر ہو کئی ہے، جس سے مختلفہ تم کی بھاریاں لائن

ہوجاتی ہیں۔ سردیوں میں عام طور پر نولہ، زکام، کھائی، بھار،

گلے کی فراش، سینے میں انگیلیوں وغیرہ جیسی بھاریاں عام ہیں،

بسب کہ بیری حمر کے لوگ عوماً بٹریوں اور جوڑوں کے وحد کی

شکاہے کہ بیری حمر کے لوگ عوماً بٹریوں اور جوڑوں کے وحد کی

شکاہے کہ بیری حمر کے لوگ عوماً بٹریوں اور جوڑوں کے وحد کی

مرد ہوائی اگرمسل کردن برگتی رہی او شاد کی دجہ سے سری وروادمك باسكما تحزله زكام ادرافقويزاك فكايت يدوباتى بروبوش جريك بدى كالمكافئ شاتديل موجاتى بيد نزار دكام اورفكا علاج فرأكسى اعطع فاكثر إاى این فی سرجن ے کروائی، کیونکہ بیٹالف آ کے بدھ کر بدی عادیوں على تبديل موسكتي بيل تمام كالف على سب سے عطرناک سینے کی خاری ہے جومرد مورت دونوں میں ہوسکتی ہے۔ یہ ای وقت او عق ہے جب مرد ایال علی بر پاروزی كرتے إلى اس كے ساتھ ساتھ كھالى بحى شروع بوجاتى ہو، جس كى ديد يد إليال اورجسمانى معتلات شى ورد بزه جاتا ہے۔جب کرکھائی رک دک کرآتی ہےاور ساتھ ماتھ برے رف كالمقم من آنا بالريسين كالملكون مون كانتانى ب اس باری ش جسانی مزوری بی بوجاتی به الی بولی تا ہے، کمی کھار چکر بھی آتے ہیں اور تفاری ہوجاتا ہے، اس کا زياده تتسان دودم يائے والى ماؤل كو موتا يه كوكال ان كى يارىدوده ين شرك كالمل موجاتى برس عربى



ن المسال می موسول کا ایک تلام فر تیب دیا ہے، جو کہ سال می موسول کا ایک تلام فر تیب دیا ہے، جو کہ سال می سردی اور کری شوت ہے۔ ایک تلام فر تیب دیا ہے، جو کہ سال می سردی اور گری شوت ہے۔ اثر انداز ہوئے ہیں، جب کہ نباتات سردی اور کری شوت ہے اثر انداز ہوئے ہیں، جب کہ نباتات موسول ہے انداز کا موسم خاص ہے۔ اگر انسان ان تمام کو کی بیاری لائی نہیں ہو گئی۔ بہ شرط کہ انہی ، صاف غذا کا استعال ہوتا رہ کر حالم ہے ہے کہ انسان نے زعگ کے اصولوں میں پہلا اصول ہی بالیا ہے کہ بردہ کا مرکب کا بھی سرا کا احساس میں پہلا اصول ہی بیالیا ہے کہ بردہ کا مرکب کا بھی سرا کا احساس موسم کے قائدے ہیں، دیے آ قاز ہوچکا ہے۔ اس میں انسانی جسم کا تاکہ کے ہیں، دیے آئی کہ کر قائدی ہیں۔ ذیل میں رہنا ہے کہ انسان کی ہیں، دیتا ہے کہ ہیں موسم کے قائدے ہیں، دیے آئی دیل کے انسان کی ہیں اگر اس موسم میں احتیار کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ انسان کی ہیں اگر اس موسم میں احتیار کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ انسان کی ہیں اگر اس موسم میں احتیار کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ سردی کی شد بیا ہی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ سردی کی شد بیا ہی ہی ہیں اگر اس موسم میں احتیار کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل ہی ہیں اگر اس موسم میں احتیار کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ سردی کی شد بیا ہی ہی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ سردی کی شد بیا ہی ہیں۔ ذیل ہیں جمل کی کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ سردی کی شد بیا ہیں۔ دیل ہیں جس کہ دیل ہیں جمل کی کرسکتی ہیں۔ ذیل ہیں، دیل جائے آئی میں رہنا ہے کہ دیل ہیں، میں اس کرسکتی ہیں۔ دیل ہیں جس کی جائے کر سردی کی کرسکتی ہیں۔



عاربوں سے بھاؤ اورامتیاطی مداور کے بارے میں اہم

معلومات فراجم كردب ين-

موبائل فون خرید نے کے گر نیاموبائل لینے سے پہلے میضمون ضرور پڑھیں

موبال فون خریدنا می ایک آرث ہے۔

مروس اور سیٹ کا انتخاب ورست طور پر کرنا ضروری ہے کیونکہ
مربال فون ایک میولت ہے اور اے زحمت یا پریشانی کا باعث
خیس بنا چاہئے۔ برخض کے لیے ایک جیسی سروس یا سیٹ پوری
طرح کاراً مخیس ہوسکتے اس لیے اپنی اپنی شرورت کے مطابق
ان چیز دل سے کام لیما چاہئے۔ مثلاً انٹرنیٹ برموبائل صادف کی
ضرورت نہیں اس طرح بونڈ سیٹ والا فون موثر سائکل سوارول
کے لیے نہایت ضروری ہے۔ فون سیٹ یا سروس لیتے وقت اس

موبائل فون جس بیزی ہے عام آدی کی زهگ کی بنیادی مروریات بیس شال ہوگیا ہے ماشی بش کی بھی سائنسی ایجاد کے حالے ہے اس کی مشال ہوگیا ہے ماشی بش کی بھی سائنسی ایجاد کے حالے ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ جب متعادف ہوا تو اتنا مہنگا میں کو نصوصی توجہ کی تھی جس کے پائی موبائل فون ہوا کر تا تھا مرآ ہستہ ہستہ کردنیا کی سب ہوئی ادکیت شخط متوسط طبقے پر مشتل ہاور جو پردؤ کمٹ اس طبقے کی دسائی بیس آ جائے اے کامیاب ہونے ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب تک موبائل فون متوسط طبقے کی قوت جرید کے بہر تھا اس وقت تک اس کی مارکیٹ موبائل فون متوسط طبقے کی قوت جرید ہے ہم تھا اس وقت تک اس کی مارکیٹ طور پریہ برخض کی زیمائی بیس آیا تو جریت آگیز طور پریہ برخض کی زیمائی بیس آیا تو جریت آگیز

2005ء کے آخری میں ونیا بحر میں موبائل فون صارفین کی تعداد 400 کرور تھی ایک سال بعد 95 تک بھٹے گئی۔2007ء میں یہ تعداد دوارب سے بڑھ گئی۔ افریقتداد رایشیا کے بہت ہے ہما عمد ملکوں میں بھی بیری تعداد کے زیراستعال رہنے لگا ہے۔ درامسل موبائل فون بروقت را بطے میں رہنے کا آیک ایسا ذریعہ ہے جس نے انسانی زندگی کا اندازہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ اس سے قبل

صرف فوج اورقانون نافذ کرنے دالے اداروں کے پاس ہی دائر لیس ادر ٹرانسمیٹر کی سہولت بھی محراب تو برفض ہرجگہ پر ہاتی دنیا سے دا بلطے شن درسکتاہے۔

جب نیلی فون ایجاد ہواتو کہا جاتا تھا کہ اس نے فاصلوں کوئم کردیا ہے گرجیتی طور پر بیموبال فون ہے جس نے فاصلوں کومٹا کرر کھ دیا ہے۔ اب تو موبال فون بین ایسی نت تی سہولیات متعارف کرائی جاری بین کے صرف رابط کرتا ہی اس کا متعدد میں رہ گیا۔ بلک اس میں کیلکو لیٹر، انٹرنیٹ، الادم، بیغام رسانی، ڈکشری فرض بہت بچھٹال ہوگیا ہے۔ اس سے کیمرے کا کام لیا جاتا ہے، آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، مووی فلمیں بنائی جاتی ہیں، ای میل ہیجی اور موصول کی جاتی ہیں گویا بیا کیا امرت دھارات کی چیز بن مجیجی اور موصول کی جاتی ہیں گویا بیا کیا امرت دھارات کی چیز بن

برخض موباک فون خریدرہائے مگراس بارے ش بہت کم اوگ درست فیصلہ کرپاتے ہیں کدان کوکس خم کی سروس اورسیٹ لینا چاہئے۔ اہرین نے اس سلسے ش ایعض ہدایات سرتب کی ہیں جن برعمل کرنے سے زیادہ تر صارفین کومزید سہولت دستیاب ہوسکے

الی سروں کا احماب سیجے جس میں کم قیت پر زیادہ سے زیادہ مند بات کرنے کی پیکش کی گئا ہو۔

الله اگرآپ کال کرنے کی بجائے تکے سے کام چلانے کے عادی میں اوسے ترین تکے والے پیکنی خریدیں۔

ہی موبائل سیٹ خریدتے وقت اس بیٹری والے سیٹ کوتر بیج ویں جوکم از کم تین یا جار کھنے کال ٹائم دے سکے۔اس سے آپ کو ابعد میں بہت مہولت ہوگی۔ کرور بیٹری والاموبائل لینے سے کی حم کی پریٹائیاں پیدا ہوسکتی ہیں۔

جہا کرآ پ موثر سائنگل یا کار چلاتے وقت اور واک کرتے ہوئے موبائل فون سے بحفاظت فائدہ اٹھانا چاہتے جیں تو ہنڈسیٹ ضرور خریدیں کیونک اس سے آپ کی توجہ کو اتفا فرق فیس پر ٹا۔یاد

ر تھیں کہ موبائل کان کو لگا کرڈرائیونگ کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ جس سے گریز کرناہی بہتر ہے۔

جیہ ابھی ہمارے ملک میں ریسکینالوی عام نیس ہوئی کہ موبائل فون کی میک کا بالکل درست یہ دلگا جاسکے۔

ایمی تک بیسپولت صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کوئی میسرے گرزتی یافتہ ممالک میں بیسپولت خاصی عام ہے اور توقع ہے کہ جلدتی ہمارے بال بیدعام ہوجائے گی۔ اس مہولت کی دستیابی کی صورت میں ایسے سیٹ خریدنے چاہئیں جن میں بیافظام طاقتور ہوتا کہ کسی بھی ایم جنسی کی صورت میں متعلقہ فردآ پ تک جلد تھے ہے۔

الله فون كا دُيرُدَائن برخض كى پهندكا جوتاب فولد بوجائے والے سيث ایک باتھ سے استعمال كرنے شن دشوارى بوتى ہے۔ دوسرى طرف وہ سيث جوفولد فين بوت ان كـ "بيد" كولاك لگا كر دكمنا مشرورى بوتا ہے آ ہا ہے حالات كے مطابق سيث نتخب كر سكتے

بنا سیٹ کی خریداری کے وقت اس کے سائز اور وزن کا وهیان ضرور رکیس مچھوٹے سائز اور کم وزن والے سیٹ استعال کرنے میں خاصی ہوات ہوتی ہے۔

الله اگرآپ مین کرنے کے عادی بی اوابیاسیت لیس جس کی اسکرین رکم ادم 6سطرین آسکیس۔

جڑ ایسے سیٹ بہتر ہوتے ہیں جن کے "پیڈ" پر تمان دہانے بل اگوشے کی زیادہ قوت امرف ندہ و بلکہ دہ آسانی سے پر اس ہوجا کیں ممینج کھنے والوں کے لیے تو ایسے سیٹ بہت ضروری ہیں۔ بلا وہ کاروباری معزات جو وقت بچانا چاہتے ہیں یا فون پر کام نمٹانے کے عادی موں انہیں کا نفرنس کی سہولت والا سیٹ لیٹا چاہئے تاکہ بیک وقت تین یا چارافراد آئیں میں بات کرسکیں۔ بلا بعض اوقات کی کمینی کی سروں لینے پرموبائل سیٹ بارعا بہت





آر كنا تريش ن ترياة لا كداس كى والري خليرة الحنى كى-ودلڈیمن آرکنا ٹزینن کی ایتدا ہ خدمت کی رپیلی کران بلاشیہ كوات ك كل خاعدانون كى دعكى عن اجاليكا سبب تى 25 ديمبر 2004 كونوناي في مرى لفاسيد كي مما لك يثي وای کادی استادک مرسطے یکس ایسوی ایکن مری انکائے خدمت اتباتيت ك حجت لدادى مركميون عما مجر يودحم -5 65 to 1812

8ء اکتری 2005ء کو یا کستان شی آنے والے موافاک زار لے كے حافرين كى لداد كے ليے وراؤيكن آركتا زويش باكتان محيواها لياكنتان مين فيذريش فيعشز كداهادى مركرميال شروع كيس الم موقع يريول يمن عاددك في أكستاني قوم اور اقوام مالم ك ثاند بثاند خدمت كالقيم ثال الأم كادار الس

هيب أميل الحرور إلدافح المخزادك سرعاى ش حاثره ملاقوں عمد معادر كيا۔ ويلائين آدكتانويان كا تحت واليا كم حاثرين شرم ف خوماك، الدويات الدلياس كي فرايس كوفكن علايك امت مسلم اخت كامظايره كرت موسة ب كر حافرین کی آباد کاری کے لیے محن کر یحن احرک در محن آباد قائم كيار ولالدوقال كي العاوسك لينترش بإكمثال كأميمن يماوي باكريرطان وافريق بتجده حرب فادامته المستوات جايان اود بری الکا کے بھن نے ول کھول کرصفیات اورا جاہ وی اشیار ہیں كر كم تعدمت كي الاول مثال الأم كار

حمالزال ARY كى جايت يردود اول عى أيك وفد جاب

جلال 2010ء کو اکتان شرامون مون کی شدید بارشوں کے سبب تجيرو پختواهوه متده بغياب اور بادينتان كي مااتول



افرادمنا رموع _ كى حائلتى نيادث مح يصليل جاء موكى اور مویش بلاک ہومجے اس سیلاب ہے کی ملاتے موہش ہے مف مے اس احساب جمن تابی سلط سے 10 لاکھ کے قریب مكانات وادموك زيل رايف مقتلع موسك ادرك وعات خال كرواد ع كي برارول اوك حائره ملاقول بي محصور وكروه محص سكالام مستخضرتك بزارول ديداتول اورتعبول كالركيس ٹی اور سطے یہ اکٹی ٹوٹ اس ناڈک مرسلے پر وراڈیسن آركنا كزيش ايك بار كاراسية دوائل خدمت انساميت اور امن سلمت مدرول كروزيد كافع مركرم على مولي اور النامتاترين كالمادك لي فرايوام او ياكتان فلذر بليف كثر 一年していくいといいというとうなり الناسيانب ودكان كي اعاد ك ليخ آل ياكتان يمن في ويقن



وكمرتعاحتون كرجراه بحي معروف عمل بآل ياكتان يمن للذريان كالخصة يحمرش بحى جريداعادي مركزميال الهام دى كى سالتان كى يمن بدائدى كابر قروان قلاى ادارول كى المادى مركزيول عماشانديناندمعروف كل إلى-

میمن براددی کی تارخ عی عدمت انسانیت کا آیک باب حيدالنادايدي كمعيم فنعيت بدجس كاخدات بأكتان كے علاوہ و مكر ممالك على بحق برع كياني و قد مل آقات على معروف عل تقرآتى ہے۔

خدمت انسانیت کی ان تھک واستان جرمیمن بمادری کے ہر فاعلاء يرى إوروناك كوف كوف عراراوال يمادري كاليك أيك أوجروقت فدمن الماليت مك وذي ے مرشارادر الاح انسانیت کواننا نسب الیمن بنائے ہوئے

نا گهانی وفدرتی آفات میں میمن براوری کی خدمت انسانیت



تبذيب وتدن عمل واخلاص اورخدمت انسائيت كعظيم رابول يرجاوه يط مون والى يمن براورى في بيشه ما كماني وقدرتى آفات شي الى محريد وفرض شناشى كاجوت وش كياب 15 جۇرى1934 مى بيارش آئے والے قطرناك زائر لے جس میں 30 ہزار افراو ہلاک ہوتے اور بورا شہر جاہ و برباد ہوگیا۔ بزاروں افراد زخی اور بے گھر ہوگئے ۔اور 31 کی 1935ء کوکو کٹریش تمن منٹ کے دورانیے کے زائر لے ش 5 برارافراد جان بحق موے2 بر 935 وکومز برزار لے کے جحکوں نے بورا کوئد شہرتاہ و برباد کردیا۔اس وقت تقریبا ہیں بزارافراد لمي تلےدب ہوئے تھے جن كى زعره بینے کی کوئی امید در تھی ۔ان نازک مرحلوں برمیمن براوری نے عیدالتارنوی والا کی سربرای شی میمن ریلیف ممینی قائم کرے خدمت کی ایک اعلی مثال قائم کی میمن براوری کی ان خدمات کو راجشرر يرشاد ادر كاندى تے خراج محسين ويش كيا۔ ادريمن برادری کی ان خدمات کے اعتراف ش واتسرے آف اعراف جناب عبدالتارنوي والاكواعلى سول اعزاز قصر مندي وازا 30-اكتوبر1960 وكوسابقد مشرقى ياكستان كمشرجنا كاكك


تحقيق وتحرير عبدالحميد طيب سوريا

کے مضافاتی طاقوں میں سمندری طوفان سے چو ہزار سابقہ مشرقی پاکستان کے مختلف طاقوں میں سیلاب امنڈ آیا۔ اور 19 مئی 1963 وکوچٹا گا تک میں سمندری طوفان نے دوبارہ جابی بچادی۔اس نازک مرسطے پرچٹا گا تک میں معاصت نے اسیخ مجر بورا ٹیارکا وکا جموت و یا اور متاثرین کی انداد میں کوئی کسرنہ اسیخ مجر بورا ٹیارکا وکا جموت و یا اور متاثرین کی انداد میں کوئی کسرنہ

چھوڑی جنوری 1964ء کو کھلتا اور پیر پورجیسور میں مغربی بٹال کے متاثرین کی امداد کے لیئے میمن ریلیف کمیٹی کھلتا اور ڈھا کہ نے برمکن تعاون کیا۔ سمبر 1965ء کو پاک بھارت جنگ کے موقع پر صوبہ سندھ کے سرحدی علاقے تھر کو خالی کروالیا گیا۔ اس وقت تھرکے مہاج بن کی امداد کے لیئے میر پورخاص کی میمن براوری نے اہم کرواد اوا کیا۔

737-1972 وکویر پورخاص ش کووکر ایارا ورقم کرداست آنے والے بھاری مباجرین کی امداد کے لیے میمن ریلیف کینی میر پورخاص ش ایتاروا بی کردارا واکیا۔
میر پورخاص نے امدادی سرگرمیوں میں ایتاروا بی کردارا واکیا۔
1973 وکو اور کی ٹاؤن کر اپی میں بریا ہونے والے فساوات کے متاثرین کی امداد کے لیئے بانوا میمن وائٹیز کا ریس نے المایاں خدمات المجام ویں 2001ء KUTCH میں بھارت کے علاقے کی اور کی میں زلالے نے جائی مجاوی ۔
اس موقع برمتاثرین کی امداد کے لیئے بھارت کی میمن براور کی بیش بی والے فروں 2002ء کو بھارت کے موب بے بیش بیش موقع الے فروں کو الماوات نے کی گھروں کو اجاز ویا۔
میرات میں ہونے والے فساوات نے کی گھروں کو اجاز ویا۔
کیرات میں ہونے والے فساوات نے کی گھروں کو اجاز ویا۔
اس افسوستاک صورتوال کے متاثرین کی امداد کے لیئے ورائریمن الریمن





الماجان بحريكام كأتحمآ ب كوو أكياب ما يوما يجيهمان شاء الله آب محصر كرف والول ين سے يا كي كے " حليم ورضاء اطاحت شعارى اورجال فارى كابيده سيدهال جذبرهاء جس عدار اوكرشاع مشرق المداسا قال يكها برفيغان تظرها إكاكتب كالمامت حمى محلاع كسفام عين كآداب فردشى الخوعفرت الإثبام واختقاصت اودشليم ورضاكا كواكرال تن كرفرات إلى " بان يدريم شادعى كاهيل ادراس ك محيل عل تم تمري كي معاون ومدكا رجو مرحيا كيتم موس فرزعون كالمطافى كوماادسط كادميت كبحبب يغ أتحول سعان كدسع ويأكوا عرحا ومادعه عرزانا كرافد ت بحم كالخيل ادراس كارضا كي صول كري ليدي قوت الهاني حرارت ممروا معقامت اورا عقلال ي جري علاكي . الل ال كركر المرى اينا كام المام كرتى واوا كالدول فريب اور عول كن معداع ربائي فعدا عن باعد مول:" اور م ف أكث فكاماكرا سعايرامكم فم في اينا خونب بي كروكها بإدام فيكوكا رول كوايها على بعلدو بأكرت إس بلافيه يرمزع آل الكرفي واور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدے بلایا۔" (سورة

"وْنَ فَظَّيمً" عدم والله كى طرف عد جنت عد كليا كياوه منذما عدي ومزعدا ما يل كفريدش وفي كالف لے اللہ تعالی کار شعب فی کیا ۔ غزائی سے مرادو قربانی بى ب، جومد بى ا عدد ما خرى ي كذا في ش جاتی رہی بہاور رسول اللہ اللہ كا كرمد ميارك سات كا عَ اورمدم بلك مديدات عك في او" حيدالافي" كموقع ي تمام لمت اسلاميد اسوة ايراجي كى يدوى شي كرتى ب-حفرت ابراتيم فليل الملة اوران كي الحاصف فعار اورفرمال ما وارقر زعر معرسد اساعيل والع المائد كى يرقروانى يورى السانى

تاريخ شي ايك مناذا ورمنزومقام كاحال بيد تاريخ مالم اومان اس مظیم قربان کی عال ویش کرتے ہے قامر يين رشريعت تعرق عن اسوة ايما ييل" قرياني" كوايك و في والى هدار، الله كي حيادت كا وسيله الداس كي بانكاه عن محد بين اير قرب كامثاني وربيرقرارد بإكها بيدقر آن ومشعد عن اس كى محمت وايب اور لمنبات كويان كياحما بيد ارثادرياني ب:"اورقريال كاونون (جانورون) ككى ام تاتهار ليدهما والدعود كياب والن عي تميار ساليدة الديدي ال (قربانی کرتے والت) تفار باعد کران برخدا کا تا ماد جب وہ کیاد کے ش کر بڑی (ائ موجا کی) اوان عی سے کماؤہ اور قاعت ، وفقرے والون اور موال کرتے والوں کو جی کلاؤه ال طرح بم نے آئی تمیادے دی قربان کردیا ہے۔ تاكرتم فكركرو مندا تك شال كاكوشت الإلا بهادن فوان وبكد (37,300) 4 3 3 4 3 (21 37.36) ال خرج "مورة الانعام" آينده 1 اور"مودة الكور" آين

2 _ الحرال كالقسع والبيعاد الى كديم الإياد ہے۔حارت زیدین ارقم رقدے دوایت ہے کردمول اکرم على عامل عليكام قيم من كيا وادول الله ان قربانوں کی طبقت اور ارفی کی ہے؟ آب کے فرمایا "مے الهادي (درمان ادرشل) مودث الل معرب ايماع كاست بي-" مولد كام في موش كيار يارسول الفيك والتاريانيون عى ماد عد لي كيا الرب كي أب في الثاوفر اليان قرياني ك برجالورك بال كرواش أيك على بيـ" (منداهر، سنن لکن مانید)

اماديد نوي شرقراني كى جودها عان كى كل ب،اس كاترجر بكريل ب:" _ إلك على في الالالت الشك المرف كراياب كل فالكن والمان كويداكيا بمعطرت ايمام ك طريعي واطرف يكسوه كالعثار ترك كسال شى ئىل يىل يولى دى دى خاز دىيادت دىرى قريانى دىرايينادد مرنا الشدب العالمين كريے بيد ال كاكول شريك فيل مادر مصال كالمح مان والول على عدد راستقرال" كى ال دعاسة ترياني كاظلف ال كاهيشت ادد فوض وعافيت كى يوى مدتك وضا صعد مولّ بي كد" قريال" ودهيقت ال ميدك تجديدا وماقر ادواعتراف ببركره اداجينا ابرموناسب الدوروهل ك ليرب مدى المكال المكال التعدال كالمكار يمك إيدا المسكوي كامرفرادى بدس كم ليم كى قربانى سد در الدرادي كى مريات كى بقرآن دست كى بالاوقى ادر كفرد شرك اوريالكى كى مركوني بهارا متعمد حياس بيد بيداري زعدكي ادر بتدكى كالتعدد بريم سلمان الرسليجين كرواد كاحيلت ومماع تتليم وضاء اطاعت شعادى اورجال شارى سدميادت ب





قرآن کریم میں ارشاد بانی ہے:"اور جب ایرائیم کے پروردگار نے چند ہاتوں میں ان کی آز مائش کی ، گیرانبوں نے اسے پورا کیا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں تہمیں لوگوں کے لیے چیثوا بنانے والا ہوں۔"(سورة البقر 1246)

مزیدارشادفر مایا:"اورجم نے اہراہیم کودنیا بین نتخب کیااوروہ آخرت میں یقیناً یکول میں سے ہیں، جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہاہے کو پروکردو، تو انہوں نے کہا، میں نے اپنے آپ کودنیا کے پروردگار کے پروکردیا۔"

جب که ' مورة الحل '' عین آپ کی جلالت اور منصب دمقام کا نذکرہ ان الفاظ ش کیا گیا: '' بے شک ایرا پیخ لوگوں کے امام خور اور) اللہ کے فرماں برادرار تھے، جو ایک طرف کے بور ب شخے، اور دہ شرکوں میں ہے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شرکز ار تھے، اللہ نے آئیل برگزیدہ کیا تھا، اورا پی سید می راہ پر جلایا تھا، اور ہم نے آئیل دنیا ش بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں ہے بول گے۔'' (سورة 20 1 - 22 1) خانوادہ ایرا ہی پر اللہ تعالیٰ کا بیفتل وانعام بھی رہا کہ آسانی خانوادہ ایرا ہی پر اللہ تعالیٰ کا بیفتل وانعام بھی رہا کہ آسانی حضرت موئی پر تور، جنانچہ حضرت موئی پر تور، حضرت بھی پر تھی اور اس المنانیاء و مصفیٰ میں اور سید المبل اللہ علیہ و مصفیٰ کے خانوادے پر تازل ہو تیں، چنانچہ صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم پر کاب میں تر آن کریم نازل ہوا۔ اس طرح آپ الہا تی خاہیب کے بیشوائے اعظم اور اس سلسلے کے طرح آپ الہا تی خاہیب کے بیشوائے اعظم اور اس سلسلے کے وابسته انبیائ کرائم کے مورث اعلیٰ ہیں۔

حطرت ابراہیم طلیل اللہ دینی حست ، ایمانی جذبے ، مبر و استقلال اورا پی جلالت قدرکے باعث ہرامتحان اور ہرآ زمائش

میں پورے بالخصوص احتمان اور آزمائش کا وہ مرحلہ جب حضرت ابرا میم خلیل اللہ "مسلسل تین رات خواب و کیمیتے میں کہ اللہ تعالی ارشاو فرما تا ہے،" اے ابرامیم کو جاری راہ میں اپنے اکلوتے بیٹے (اساعیل) کوتربان کردے۔"

قرآن كريم بن ال واضح كا ذكر كيموال طرح ب: (ترجم)

" كرجب وه ال كساته ووز في (ك عر) كو كان الواجيم
في كربا بول ، لوق كورتم الوكرة بها ول كر (كويا) تمهين وخ كربا بول ، لوق كر و كويا) تمهين وخ كربا بول ، لوق كورتم الوق كورتم الوق في الله في الله في الله في بالله في الله في بالله في الله في ا

قدرت كاكرشدد ويحيد كدايك طرف 90 سالد بوز هاباب، جد عرج كركي آه حرگان كي بعد خانوادة نبوت كاچشم و چهاخ عطا موا جوان كاچيتا اور اكلوتا بينا، لخت جگر اور نور نظرب، ايك حالت يس جب كدوه جوانى كى عركو تيخي رباب، بيعشق خداوندى كى آشفند سرى اور توحيد ربانى كى كرشد سازى تنى كدانتها فى شفق ورحم ول باب كي باته يس چرى دے كر لخت جگر اور فرزند عرز و كو ذرك كرك ماسوى الله كى محبت كا نذراند چيش كرنے كا حكم بوتا جد برقا، جس نے اساعيل حضرت ابراہيم خليل الله كے فرزند بخد برقا، جس نے اساعيل حضرت ابراہيم خليل الله كے فرزند بخد بورى رضا اور خش ود لى كس اتھ كويا بوسة: چیم و چراخ عطا ہوا، جوان کا چینیا اور اکلوتا بیٹا، لخت جگر اور تور
نظرے، ایسی حالت میں جب کدوہ جوانی کی عمر کوچی رہاہے، یہ
عشق خداو تدی کی آ هفته سری اور تو حید ربانی کی کرشہ سازی تھی
کدائنا کی شغیق ورحم دل باپ کے ہاتھ میں چمری دے کر لخت
جگر اور فرز تدعور پر کو ذی کر کے باسوی اللہ کی محبت کا نذرانہ پیش
کرنے کا تھم ہوتا ہے، دوسری جانب اطاعت شعاری اور تسلیم و
رضا کا وہ لا قائی جذبہ تھا، جس نے اسامیل کو سرتسلیم فم کرنے،
اللہ کی راہ بیس متاع عوری ، اپنی جان قربان کردینے اور ذی کا اللہ
بن کر جیشہ کے لیے اسم ہونے پر آبادہ کیا ۔ حضرت اسامیل
من کر جیشہ کے لیے اسم ہونے پر آبادہ کیا ۔ حضرت اسامیل
حضرت ایرا جیم طیل اللہ

ابا جان ،جس کام کاتھم آپ کو دیا گیا ہے، اے پورا کیجے انشاء اللہ آپ جھے مبر کرنے والوں میں سے پاکیں ہے۔ "، تسلیم و رضا ، اطاعت شعاری اور جاں شاری کا بیروہ بے مثال جذبہ تھا، جس سے متاثر ہوکرشاع مشرق علامہ آقبال نے کہا

بدفیضان نظرها یا کدکتب کی کرامت یحی سکھائے کس نے اساعمیل کوآ داب فرزندی

آخر حضرت ابراميم صبر وااستقامت اورتشليم ورضاكا كوهرال بن كرفرمات ين "و جان يدر علم خداوتدي كالعميل اوراس كي يحيل مين تم مير _ كنف "عيدالافخى" كاروح يرورتبوار مارى د بنی اور لی تاریخ کی و وعظیم یاوگار ہے، جو خاتم انتہین ،سید الرسلين ، اما الانبياء حضرت محرمصطفیٰ صلی الله عليه وآله وسلم کے جداعلى حضرت ابرابيم غليل القداوران كاطاعت شعاراوروفا شعارفرزند، حطرت اساعيل والح اللدى طرق منسوب ب-ي تتليم ورضا، اطاعت واستقامت اور جال ثاري كي ووعظيم یادگار ہے،جس کی مثال بوری انسانی تاریخ میں ٹیس ملتی۔ بیدوہ عظیم قربانی ہے، جس کی قوایت براللہ تعالی نے مہرتصدیق عبت فرمائي حضرت ابرائية كے جذيد صادق اور حضرت اساعيل كى اطاعت وفرمال برداري اورتسليم ورضا كيسبب باب وخليل الله اورجيع وفح الله كي بلندالقابات عرفراز موع -حضرت ابراہیم خلیلاللہ کی پوری زندگی راہ خدامیں بجرت،مبر واستقلال، جرات واستقامت ، راه حق مي برى ع يرى آزمائش میں بورا ارتے، جال شاری اور قربانی سے عبارت ہے۔ بروردگار عالم کوایے خلیل کا بہ جذبہ ماوق اس قدر پہند آیا کدا ہے ایمان کا حقیقی معیار قرار دیا گیا۔ یہی ایمانی جذب ہر دوراور برعبدكى كسوئى ب_مبرواستقلال اوروين يراستقامت كحوال عصرت ابرابيم ظيل الله كى زعد كى ايدرون جاغ كى حيثيت ركعتى ہے، جس كى روشى تيامت تك إي نورانى كرنين بمعيرتي ربي كي-

عيدالاضي اورفلسفه قرباني صبرواستنقامت اورتشليم ورضاكي لازوال داستان

عبيرالالى الماك دهم ياكارب خاتم النيسين رميد الرطين، المام الاانبياء حفرت محرصناتي صلى الشرطيدة لدوملم كربيدا فل حطرت ابراتيم فليلما الشداودان ك اطاعت فعادا وروقا فعارقر زعد معرت اساعل ذع كالرف متوب سبد برحليم و زشاء اطاحك و اشكامك الا بال قاملا كى ووطعيم بإذكار بيدجس كى خال يورى انساني تاريخ شرفيل في ريده هيم قريانى بدجس كالديد يرالله تفال نے برقد ال فید فرال-حرب اوابع کے جذبہ ساوق اورحضرت اساعل كالطاحت وقربال مدامك اوتنليم ورضا كرسيب إلى الخيل الله" الديني "وال الله" ك إند القلبات سرفرالا الاست

حرسه ايماليم على الله كى يدى زعك داد ضاش العرب بمرد استخلال جرات واحتامت وراحل عن بدى يدى يدى آل أكل ش بعد الرياد المراد الم والمكواسية فليل كاجذب والقراس الدياعة واكراس العان كا حيتى مسيادترادوا كياريك النانى جذب برنعان يرجدى كونى بدم واعتقال ادرين ياعقام عدك والمستحري الماليم على الشكى دعمك اليسعان جائع كى ييست وكمتى ب جى كاردى قامدى المان كالداني كالمراكديك قرآن كريم عن ارشاد وائى ب" اور جب ايماعلم ك يسكار في عداول شان كا أناكل كا يرابعل ك اے ہما کیا قراف نے ان ے قربال کے عرب کول کے الميان المولية" (مورة التروية)

حريد ادشاد قربايد الديم في ايرائيم كوديا شي فخف كيا اورود آفرت على الليخ كيلل على الله على و بعب الن ك يدوكار في ان سيكها كراسية كويردوروه والبول في كهاه ش في استا الساود في كي ووقاك مروكو وال جب كر" مورة أهل" شي آب كى جلالمت اورمصب ومقام كا

تذكر ان الفاؤش كيا كيا:"في كا امامهم لوكول ك

المام (اور) الشركة مال بروار في هايك طرف كمادرب تے اور وہ شتر کول میں سے شدھے اس کی فہتوں سے محر گزار هے، اللہ فرانس بركزيد كيا فلد اورا في سيد كاراد برجاليا فلد اورام لے آئی ونیاش می اول دی تی اور آخرت ش می اود (122: 120 Pier)"_ LUN _ CLUB Q خانووده ايرا يحقى يرافدته افى كاكري فلل دافعام يحى رباكرة سيالى محافک عل سے جاروں وی کا شربان سے وابست انہائے كام يكن حريداريم كم فالواد عديدال اوكن وين في حفرت موکي بر تورات معفرت داؤد برزيد وحفرت جيني بر اكتل أورسيدا لرطين خاتم أعجلن المام الانجياء معرست توسعطنى صلى الله طبيدة كدوم لم يم كتاب بين قرآن كريم نازل مواساس طرح آب الهاى واب كفاش اعامهم اوال المعلم وابت المياع كرام كروسه اللي ور

حنرت ابراهم طلل الله وفي حيت والعاني جذب ميرو اعتقال اورائي بالكن قررك باحث براحمان اور بر

الرائش عن يوسعات، بالشوى القان تدراته التي كا ود مرحله جب حغرت ابرائيم على الدمسلسل تين دارت فونب ويكين بي كراطرتواني ارتاوقراط بي استابراكم جرواري داه شرا کو تریخ (اسائکل)کوریان کوست

قرال كريم على ال واقع كا ذكر يك ال طرح ب: (تعر) مرجب دوان كما تدود في (كامر) كو يني الوابراميم في كيا كريناه للى خواب للى ويكما بول كد (كوي) فسيس وي كرربايون ، وق كور فيها ما كيا خيل عيدة البول في كما كراياتوان الميكوي الماع والماكية والشيا عاماتراك كامايول على المي كروب دالل الح ان ليادر باب نے في الحد كال الاديا و الم في أكال إلا ماكداستان المتلاقم في فواب كوايا كردكها إديم تكوكارون كوايدا الله بدارد إكريج بين ريادير، بدا كم مرت آن الكركي واوج نے ایک بڑی قربانی کوان کا فدیے عادیا۔" (سورة الساقات 107-102) قديث كاكراته وكلي كراكي المراب 90 مالد يلاحاياب ي عند المركزي والركاني كيده فافوادة توسدا

ایڈیٹر کے قلم سے

قدرتی آفات میں میمن برادری کا کردار

میمن برادری این سخاوتی سرگرمیوں کی بدولت تومشہور ہے ہی قدرتی سانحات کی صورت حال میں بھی اس برادری کا کردارنا قابل فراموش رہاہے۔ان آفات کی تاریخ کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت کی الی گھڑی میں میمن براوری نے ہر مرتبہ متاثرین کی امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا جا ہے وہ سياست بهار كازلزله (1934) بويا كوئيه كازلزله (1935) بومشرقي ياكتان كاسيلاب (1970) يارياست مجرات كازلزله (2001) يا پهر بحر بهند كاسونا مي طوفان (2004) ہو۔ پچھ مرصقبل یا کستان کے شالی علاقے میں جاہ کن زلزلہ کے موقعے پراور یا کستان بھر میں حالیہ سیلاب میں بھی میمن براوری نے متاثرین کی امداد میں بڑا اہم کردار کیا ہے۔ترکی ،کلکتہ اور کشمیر میں زلذلوں کے بعد بھی میمن برادری نے متاثرین کی امداد میں اپنا کردارادا کیا تھا۔ یہاں ایک نام قابل ذکر ہے۔ جناب عبدالتار حاجی سلیمان نوی والا انہوں نے ریاست بہار اور کوئٹر کے زلزلوں کے متاثرین کے لئے امدادی سرگرمیوں میں میمن ریف سمیٹی کے ماتحت بہترین خدمات انجام دیں جسکی قدر کرتے ہوئے اس وقت کے ہندوستان کے برکش واکس رائے نے عبدالستارنوی والا کو قیصر ہند کے لقب سے نواز ہ تھا۔اس طرح1970 میں مشرقی یا کستان کے سیلاب زدگان کی امدادی میں بڑھ چڑھ کرحصہ لینے پر جناب عثمان سلیمان کو حکومت یا کستان نے ستارہ خدمت کا ایوارڈ ویا تھا۔اس سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کمیمن براوری کی امدادی سرگرمیوں کو برکش سمیت تمام حکومتیں سراہتی رہی ہیں میمن براوری نے اور بہت سے تباہ کن سانحات میں بھی نمایاں کردارادا کیا۔غیمنقسم ہندوستان کی تقسیم کے وقت مسلمان یا کستان کی طرف ججرت پذیر تنصاورا کی مختصر سے وقت میں تصیر تعداد میں مہاجرین کی پاکستان میں ایک ساتھ آمدے کی مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ بے گھراور بے یارو مدد گار تھے۔ ایسے حالات میں اس وقت کی نامی گرامی میمن شخصیات نےمیمن رلیف کمیٹی کے زیرسایامتاثرین کی امداد کے لئے پور بندر،جمبئی اوراوکھا کےعلاوہ یا کستان میں کراچی اورکھوکھر ایار کےمقامات پرالمدادی کیمپس قائم کئے اور بلاامتیاز تمام متاثرہ خاندانوں کوخوراک،ادویات، جیت اورٹرانسپورٹمیشن سمیت ضروری سہولیات مفت فراہم کی گئیں بچیلی یا کچ وہائیوں ہے میں جماعتوں اور اداروں نے اپنی برادری کے حاجت مندوں کی فلاح و بہود کے لئے ہمکن کوشش کی ہے نیکن ایسے اقد امات متعلقہ جماعتوں اور اداروں کے دائر ہ کا تک ہی محدودرہے ہیں۔ان حالات میں ایک ایسے بین القوامی ادارے کی ضرورت محسوں ہونے گئی جہاں یوری میمن برادری کوایک ہی مشتر کہ پلیٹ فارم فراہم کیاجا سکے۔ای احساس کی بدولت 2002 میں ورلڈمیمن آرگنا تزیشن (WMO) کا قیام عمل میں آیا اوراب بیادارہ ندصرف میمن برادری کے لئے بلکہ پوری انسانیت کی خدمت کے لئے بہترین کام کررہاہے۔

WMOاور قدرتی سانحات

یا کتان میں 8 اکتوبر 2005 کے زلز لے کی تباہ کارپوں کے وقت W M میا کتان چیپٹرنے آل یا کتان میمن فیڈریشن (APMF) کے اشتراک بے فوری طور پرامدادی سرگرمیاں شروع کی اورمتاثرین کوخوراک ،ادویات ، کپڑے اور دیگر ضروری اشیاء کے علاوہ نقتر رقوم تقسیم کیں ۔ کراچی کی پٹیل ہپتال کے تعاون ے اسلام آباد میں ایک میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا تھا۔ ایمرجنسی امداری کام کے اختتام پر زلز لے کے متاثرین کے لئے تقریباً 300 مکانات تعمیر کروائے تھے۔ اب جولائی 2010 میں یا کتان کے ایک بہت بڑے جھے میں سیلاب نے جابی محادی۔میمن برادری نے لاکھوں سیلاب زدگان کی امداد کے لئے فوری اقدامات شروع کردیے۔WMO نے شیخانی فاؤنڈیشن کے اشتراک ہے ایک WO یا کتنان فلڈ رلیف فنڈ قائم کیا ہے اور امدادی سرگرمیاں اب بھی

میمن عالم کے اس شارے کا موضوع بھی' سیلاب پاکستان تباہ کاریاں جو پہلے بھی نہ آئیں ہے''اس شارے میں جوضمون پیش کئے گئے ہیں ان میں پورے خطے ک تاریخ کے اس برترین سیلاب اور میمن برادری ملخصوص WM O اور شیخانی فاؤنڈیشن کے کرداری عکای کی گئی ہے

> بيرفحدكاليا چيف ايڈيٹر ميمن عالم







فرمان خداوندي

یر کا فرلوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے الکاردیا، خواہ الل کتاب میں سے موں یا مشرکین میں ہے، وہ اے ذرائھی پیندئیں کرتے کہ تمہارے او برکوئی بھی بھلائی تمبارے رب کی طرف ہے نازل ہو، مگر اللہ توجے جا بتا ہے اس کوا بنی خاص رحمتوں اور تعتول ہے لواز تاہے۔اوروہ بڑاہی فضل فرمانے والاہے۔ (سورة البقره 2 ترجمه آيت 105)



علم وحكمت كي باتنين 🖈 مال غنیمت کی اُمید پرکسی کو جان جو کھوں

ين مت ڈالو۔ 🏠 کم بولنا حکمت کم کھاناصحت اور کم سونا عبادت ہے۔

الم سخى خدا كا دوست ب حابية فاس مؤ بخيل خدا كاؤخمن ب حابز ابد مو


🖈 دو قماز وں کو بلاکسی جواز کے جمع کرنا گناہ

اللہ کی (شادی شدہ) فوجی کو جار مینے ہے زیادہ میدان جنگ میں نہیں رو کنا جاہیے۔ الدركثرت معيبكم مال ادركثرت

🖈 ہرشے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کاحسن بہے کہ فورا کی جائے۔

🖈 جو خض اینا راز چھیا تا ہے وہ اینا اختیار این باتھ میں رکھتاہے۔

(حضرت عمر فاروق)



تم میں سے بڑخض محافظ اور تکران ہے اور اس سے ان لوگوں کے بارے میں لوچھ بچھ ہوگی جواس کی محرانی میں دیے گئے ہیں۔ اس امیر جولوگوں کا محران ہے،اس اس کی رعیت کے بارے میں یو چھ کھے ہوگی۔ اور مرد جوائے گھر والوں (بیوی بچوں) کا گران ہے، لیں اس سے اس کی رعیت کے بارے میں اوچھ کچھ ہوگی اور بیوی اسپے شوہر کے گھر اورشو ہرکی اولا دکی مران ہاوراس سے اولا دد کے بارے میں یو چھ پھے ہوگی۔ (بخاری مسلم عن ابن عرف)

The Gold Standard



Available in 1gm to 1kg

"Ten Tola and Klio Bars available in 995 and 999 purity respectively

ARY JEWELLERY U.A.E. PAKISTAN - OMAN - U.K. - U.S.A.

CORPORATE HEAD OFFICE. ARY House, Delra Gold Souk, P.O.Box 1123 Dubai, U.A.E. Tel: +971 4 2263535

Fax: +971 4 2267988

Compliments From

Associated investment & development corporation

Box 786, Gaborone, Botswana

Represent

A group of Companies having diversified business interests in

Motor dealerships, Printing & Publishing,

Poultry farming, Agriculture,

Air Charter and Real Estate

In the Southern African Region







